

اصلاحی خطاب

جلد ۲

- والدین کی خدمت
- سونے کے آداب
- زبان کی حفاظت کیجئے
- حضرت ابراهیم علیہ السلام اور تعمیر بیت اللہ
- شبِ برات کی حقیقت
- اولاد کی اصلاح و تربیت
- غیبت - ایک عظیم گناہ
- تعلق مع اللہ کا طریقہ
- وقت کی قدر کریں
- اسلام اور انسانی حقوق

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذکور

میر اقبال پبلیشنز

اصلائی خطبات



شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیم



نشاندار تحریر
متعبد نامہ

میمن ان طالک پپاشن ری

سردیت نگردگاری

چیلڈرنس میگزین فاٹر ٹھرٹھری ڈیپیس

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
 ضبط و ترتیب محمد عبداللہ سیمن صاحب
 تاریخ اشاعت ستمبر ۱۹۹۳ء
 مقام جامع مسجد بیت المکرم گلشنِ اقبال کراچی
 باہتمام ولی اللہ سیمن صاحب
 ناشر سیمن اسلامک پبلیشورز
 کپوزنگ عبدالمالک پراجہ (فون: 0333-2110941)
 حکومتِ پاکستان کا پی رائٹس رجیسٹریشن نمبر: ۱۴۵



ملنے کے پتے

- سیمن اسلامک پبلیشورز، ۱۸۸/۱، لیاقت آباد، کراچی ۱۹
- دارالاشرافت، اردو بازار، کراچی
- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳
- کتب نان، غلبہ ہی، گلشنِ اقبال، کراچی
- اقبال بک سینٹر سدر کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پیش لفظ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ظاہریم العالی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰنِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الظَّرِيمَ اَضَطَفْنَا۔ آمَّا بَعْدُ!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی قیل میں احتقر کنی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سنن والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احتقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمين۔

احتقر کے معادن خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے آجھے مرہے سے احتقر کے ان بیانات کو شیپریڈار کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی تشریفاً اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں ووہتوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب تقریباً چار سو سے زائد ہو گئی ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قائمہند بھی فرمائیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اسلامی

خطبات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احتر نے نظر ہانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تحریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تعینیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخلیص ہے جو کیسوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچنے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر عطا طا یا غیر مفید ہے، تو وہ بھی احتر کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریروں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سائیں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نہ سے بیاد توی زخم، چہ عبارت و چہ معافیم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احتر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور پھر ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صد عطا فرمائیں۔ آمن۔

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عرض ناشر

الحمد لله "اصلاحی خطبات" کی چوتھی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد تالث کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد رابع کو جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبداللہ میکن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قبیق وقت، نکلا، اور دن رات کی انٹک محنت اور کوشش کر کے جلد رابع کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ہم جامہ دار الحکوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب مدظلہم اور مولانا راحت علی ہاشمی صاحب مدظلہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قبیق وقت نکال کر اس پر نظر ہانی فرمائی اور مفید مشورے دیئے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آسانی پیدا فرمادے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ولی اللہ میکن
میکن اسلامک پبلیشورز

عنوان

صفحہ

ا جملی فہرست خطبات

۲۱	(۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت
۵۱	(۳۱) والدین کی خدمت
۷۹	(۳۲) "غیبت" لیک عظیم گناہ
۱۰۷	(۳۳) سونے کے آذن
۱۲۹	(۳۴) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ
۱۳۱	(۳۵) زبان کی حفاظت کیجئے۔
۱۵۷	(۳۶) حضرت ابراہیم اور تحریر بیت اللہ
۱۷۷	(۳۷) وقت کی قدر کریں
۲۲۵	(۳۸) اسلام اور انسانی حقوق
۲۵۵	(۳۹) شب برات کی حقیقت

تفصیلی فہرست مضمائیں

(۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت

- | | |
|----|--|
| ۲۳ | اولاد کی اصلاح و تربیت |
| ۲۴ | خطاب کا پیرا عنوان |
| ۲۵ | لفظ "بیٹا" لیک شفقت بمرا خطاب |
| ۲۶ | آئیت کا ترجمہ |
| ۲۷ | ذلی معلم نجات کے لئے کافی نہیں۔ |
| ۲۸ | اگر اولاد نہ ملتے تو! |
| ۲۹ | دنیادی آگ سے کس طرح بچاتے ہو؟ |
| ۳۰ | آج دین کے علاوہ ہر چیز کی غفران ہے۔ |
| ۳۱ | تحوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ |
| ۳۲ | ڈرامی جان کل گئی ہے |
| ۳۳ | تھی نسل کی حالت۔ |
| ۳۴ | آج اولاد میں باپ کے سر بر سوار ہیں۔ |
| ۳۵ | باپ "نر سنگ ہوم" میں |
| ۳۶ | جیسا کروں گے ویسا بھروسے |
| ۳۷ | حضرات انبیاء نور اولاد کی غفران |
| ۳۸ | قیامت کے روز ماتحتوں کے ہدایے میں سوال |
| ۳۹ | یہ گناہ حقیقت میں آگ ہیں۔ |
| ۴۰ | حرام کے لیک لئے کا نتیجہ |
| ۴۱ | اندر ہرے کے عادی ہو گئے ہیں۔ |

عنوان

صفحہ

۳۷	۲۰ اللہ والوں کو گنہ نظر آتے ہیں۔
۳۷	۲۱ یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے۔
۳۸	۲۲ پسلے خود نماز کی پابندی کریں
۳۸	۲۳ بچوں کے ساتھ جھوٹ مت پولو۔
۳۹	۲۴ بچوں کو تربیت دینے کا انداز
۴۰	۲۵ بچوں سے محبت کی حد
۴۱	۲۶ حضرت شیخ الحدیث کالیک واقعہ
۴۱	۲۷ کھانا کھانے کا ادب
۴۲	۲۸ یہ اسلامی آداب ہیں۔
۴۳	۲۹ سلت سل سے پسلے تعلیم
۴۳	۳۰ گمراہی تعلیم دیجہد
۴۵	۳۱ قدیم فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
۴۵	۳۲ بچوں کو ملنے کی حد
۴۶	۳۳ بچوں کو ملنے کا طریقہ
۴۷	۳۴ بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ
۴۷	۳۵ تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے
۴۸	۳۶ اپنے ماتھتوں کی غفران کریں
۴۹	۳۷ صرف دس منٹ لکھ لیں

(۳۱) ولدین کی خدمت

۵۲	۱ حقوق العباد کامیابیں
۵۳	۲ افضل عمل کونسا؟
۵۵	۳ نیک کاموں کی حص

عنوان

صفہ

۵۵	۳ افسوس، میں نے بہت سے قبر لا منائی کر دیئے۔
۵۶	۵ سوال ایک، جواب عشق
۵۷	۶ ہر شخص کے لئے افضل محل چدا ہے
۵۸	۷ نماز کی افضیلیت
۵۸	۸ چلو کی افضیلیت
۵۹	۹ والدین کا حق
۶۰	۱۰ بے غرض محبت
۶۰	۱۱ والدین کی خدمت
۶۱	۱۲ پھنا شوق پورا کرنے کا ہم دن نہیں
۶۲	۱۳ یہ دین نہیں ہے
۶۳	۱۴ حضرت ابوس قرنی رضی اللہ عنہ
۶۴	۱۵ صحابیت کا مقام
۶۵	۱۶ مل کی خدمت کرتے رہو
۶۵	۱۷ مل کی خدمت کا مسئلہ
۶۶	۱۸ صحابہ کی چاندی
۶۸	۱۹ والدین کی خدمت گزری کی اہمیت
۶۸	۲۰ جب والدین بوڑھے ہو جائیں
۶۹	۲۱ سبق آموز واقعہ
۷۰	۲۲ والدین کے ساتھ حسن سلوک
۷۱	۲۳ والدین کی نافرمانی کا مسئلہ
۷۱	۲۴ مجرمت ٹاک واقعہ
۷۲	۲۵ ملم کے لئے والدین کی احتجاجت
۷۲	۲۶ جنت حاصل کرنے کا آسان راست
۷۳	۲۷ والدین کی وفات کے بعد تلقی کی صورت

صفحہ

عنوان

۷۳	۲۸..... مل کے قمی حق، باپ کا ایک حق
۷۴	۲۹..... مل کی خدمت اور باپ کی تعظیم
۷۵	۳۰..... مل کی خدمت کا نتیجہ
۷۵	۳۱..... واپس جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو
۷۶	۳۲..... جا کر مل باپ کو پہنچو
۷۶	۳۳..... دین "حفظ حدود" کا نام ہے۔
۷۷	۳۴..... لعل اللہ کی صحبت
	۳۵..... شریعت، سنت، طریقت

(۳۲) غیبت لیک عظیم گناہ

۸۱	۱..... "غیبت" ایک سمجھنے گناہ
۸۲	۲..... غیبت کی تعریف
۸۳	۳..... غیبت گناہ کیرو ہے
۸۳	۴..... یہ لوگ اپنے چہرے نوجہن کے
۸۴	۵..... غیبت "زنا" سے بدتر ہے
۸۵	۶..... جنت سے ان کو روک دیا جائے گا
۸۶	۷..... "غیبت" مردار بھائی کا گوشت کھلا ہے
۸۷	۸..... غیبت کرنے پر جبرت ناک خوب
۸۸	۹..... حرام کھانے کی قلست
۸۹	۱۰..... غیبت کی اجازت کے موقع
۸۹	۱۱..... دوسرا ہے کے شربے پچانے کے لئے غیبت کرنا
۹۰	۱۲..... اگر دوسرا کی جان کا خطرہ ہو
۹۰	۱۳..... علامیہ گناہ کرنے والے کی غیبت

عنوان

- | | |
|-----|---|
| ۹۱ | ۱۳ یہ بھی غیبت میں داخل ہے |
| ۹۲ | ۱۵ فاسق و فاجر کی غیبت جائز نہیں |
| ۹۳ | ۱۶ خالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں |
| ۹۴ | ۱۷ غیبت سے بچنے کے لئے عزم اور رحمت |
| ۹۵ | ۱۸ غیبت سے بچنے کا علاج |
| ۹۶ | ۱۹ غیبت کا کفدرہ |
| ۹۷ | ۲۰ حقوق کی ملائی کی صورت |
| ۹۸ | ۲۱ معاف کرنے اور کرانے کی فضیلت |
| ۹۹ | ۲۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معلمانا ماننا |
| ۱۰۰ | ۲۳ اسلام کا ایک اصول |
| ۱۰۱ | ۲۴ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ |
| ۱۰۲ | ۲۵ اپنی برائیوں پر نظر کرو |
| ۱۰۳ | ۲۶ گفتگو کا رخ بدل دو |
| ۱۰۴ | ۲۷ غیبت تمام خرایوں کی جڑ |
| ۱۰۵ | ۲۸ اشدہ کے ذریعہ غیبت کرنا |
| ۱۰۶ | ۲۹ غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں |
| ۱۰۷ | ۳۰ غیبت سے بچنے کا طریقہ |
| ۱۰۸ | ۳۱ غیبت سے بچنے کا عزم کریں |

(۳۳) سونے کی آداب

- | | |
|-----|-------------------------------|
| ۱۰۹ | ۱ سوتے وقت کی طویل دعا |
| ۱۱۰ | ۲ سوتے وقت وضو کر لیں |
| ۱۱۱ | ۳ "آداب" محبت کا حق ہیں |

صفحہ

عنوان

۱۱۱	۳..... دہانی کروٹ پر لیشیں
۱۱۱	۵..... دن کے معلقات اللہ کے پسروں کر دو
۱۱۲	۶..... سکون و راحت کا ذریعہ "تفہیض" ہے
۱۱۳	۷..... پنہاں کی جگہ ایک ہی ہے
۱۱۴	۸..... تیر چلانے والے کے پہلو میں بیٹھ جاؤ
۱۱۵	۹..... ایک نادان بیچے سے سبق لو
۱۱۵	۱۰..... سیدھے جنت میں جاؤ گے
۱۱۶	۱۱..... سوتے وقت کی مختبر دعا
۱۱۶	۱۲..... غیند ایک چھوٹی موت ہے
۱۱۷	۱۳..... بیدار ہونے کی دعا
۱۱۷	۱۴..... موت کو کثرت سے یاد کرو
۱۱۸	۱۵..... الماٹیلنا پسندیدہ نہیں
۱۱۸	۱۶..... وہ مجلس باعث حسرت ہو گی
۱۱۹	۱۷..... ہمدری مجلسوں کا حل
۱۲۰	۱۸..... تفہیج طبع کی پائیں کرنا جائز ہے
۱۲۰	۱۹..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامعت
۱۲۱	۲۰..... احمد مجتب پر اجر و ثواب
۱۲۲	۲۱..... ہر کام اللہ کی رضاکی خاطر کرو
۱۲۲	۲۲..... حضرت مجنووب "اور اللہ کی یاد
۱۲۳	۲۳..... دل کی سوئی اللہ کی طرف
۱۲۳	۲۴..... دل اللہ نے اپنے نئے ہٹایا ہے
۱۲۴	۲۵..... مجلس کی دعا اور کفارہ
۱۲۴	۲۶..... سونے کو عبادت ہنالو
۱۲۵	۲۷..... اگر تم اشرف الخالقیات ہو

عنوان

صفحہ

- ۲۸ لئی مجلس مردار گدھا ہے
 ۲۹ غیند اللہ کی عطا ہے
 ۳۰ رات اللہ کی عظیم نعمت ہے

(۳۳) تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ

- ۱ دیا کپڑا پہننے کی دعا
 ۲ ہر وقت کی دعا علیحدہ
 ۳ تعلق مع اللہ کا آسان نسخہ
 ۴ اللہ ذکر سے بے نیاز ہے
 ۵ جامِ برائیوں کی جزا اللہ سے غفلت
 ۶ اللہ کمال گیا؟
 ۷ ذکر سے غفلت جرائم کی کثرت
 ۸ جرائم کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ۹ زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے
 ۱۰ تعلق مع اللہ کی حقیقت
 ۱۱ ہر وقت مانگتے رہو
 ۱۲ یہ چھوٹا سا چنکله ہے
 ۱۳ ذکر کے لئے کوئی قید و شرط نہیں
 ۱۴ سنون دعاؤں کی اہمیت

(۳۵) زبان کی حفاظت کیجئے

- ۱ تین احادیث مبارکہ
 ۲ زبان کی روکیہ بھل کریں

عنوان

سفر

- ۱۳۵ زبان ایک عظیم نعمت
 ۱۳۵ اگر زبان بند ہو جائے
 ۱۳۶ زبان اللہ کی امانت ہے
 ۱۳۶ زبان کا صحیح استعل
 ۱۳۷ زبان کو ذکر سے ترکو
 ۱۳۷ زبان کے ذریعہ دین سکھائیں
 ۱۳۸ تسلی کا حکمہ کہنا
 ۱۳۹ زبان جسم میں لے جانے والی ہے
 ۱۳۹ پسلے تو کو پھر بولو
 ۱۴۰ حضرت میل صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 ۱۴۰ ہماری مثل
 ۱۴۱ زبان کو قابو کرنے کا اعلان
 ۱۴۲ زبان پر تالہ ڈال لو
 ۱۴۲ گپٹ شپ سے بچو
 ۱۴۳ میں جنت کی ضمانت دنیا ہوں
 ۱۴۳ نجات کے لئے تین کام
 ۱۴۴ گناہوں پر رو
 ۱۴۵ اے زبان، اللہ سے ڈرتا
 ۱۴۶ قیامت کے روز اعضا بولیں گے

(۳۶) حضرت ابراہیم اور تغیر بیت اللہ

- ۱۴۰ دین کی جامعیت
 ۱۴۱ تغیر بیت اللہ کا واقعہ
 ۱۴۲ مشترکہ کارناموں کو بڑے کی طرف منسوب کرنا

- ۳ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادب
- ۴ عظیم الشان واقعہ
- ۵ دل میں بدلائی نہ ہو
- ۶ فتح مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افسوسی
- ۷ توفیق مجاہد اللہ ہوتی ہے
- ۸ حقیقی مسلمان کون؟
- ۹ تعمیر مسجد کا مقصد
- ۱۰ دین نماز اور روزے میں مختصر فہیں
- ۱۱ نولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے
- ۱۲ نماز کے بعد استغفار کیوں؟
- ۱۳ جامیع دعا
- ۱۴ قرآن کے لئے حدیث کے نور کی ضرورت

(۳۷) وقت کی قدر کریں

- ۱ حضرت عبداللہ بن مبلک رحمہ اللہ علیہ۔
- ۲ آپ کی اصلاح کا مجیب واقعہ۔
- ۳ علم حدیث میں آپ کا مقام
- ۴ دنیا سے بے رغبتی اور کندرہ کشی
- ۵ حدیث رسول کا مشغلہ
- ۶ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت و محبت
- ۷ آپ کی فیاضی کا مجیب واقعہ
- ۸ آپ کی سختی اور غرباء پر دری
- ۹ آپ کی دریا دلی کا ایک اور واقعہ

عنوان	صفحہ
۱۰۔ کتاب الزهد والرقة	۱۸۷
۱۱۔ دو عظیم نعمتیں اور ان سے غفلت	۱۸۸
۱۲۔ صحت کی قدر کرلو	۱۸۹
۱۳۔ صرف ایک حدیث پر عمل	۱۹۰
۱۴۔ ”ابھی تو جوان ہیں“ شیطانی دھوکہ ہے۔	۱۹۰
۱۵۔ کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟	۱۹۱
۱۶۔ ڈرانے والے کون ہیں؟	۱۹۱
۱۷۔ ملک الموت سے مکالمہ	۱۹۲
۱۸۔ جو کرتا ہے ابھی کرلو۔	۱۹۲
۱۹۔ دور کعت فہل کی حضرت ہوگی	۱۹۳
۲۰۔ نیکیوں سے میران عمل بھرلو۔	۱۹۳
۲۱۔ حافظ ابن حجر اور وقت کی قدر	۱۹۴
۲۲۔ حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر	۱۹۵
۲۳۔ کام کرنے کا بہترین سر	۱۹۶
۲۴۔ کیا پھر بھی نفس سستی کرے گے	۱۹۶
۲۵۔ شمولی خیالات کا علاج۔	۱۹۷
۲۶۔ ہماری زندگی کی قلم جلا دی جائے تو؟	۱۹۸
۲۷۔ کل پرست ہلو۔	۱۹۸
۲۸۔ نیک کام میں جلد بازی پسندیدہ ہے۔	۱۹۹
۲۹۔ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو	۱۹۹
۳۰۔ جوانی کی قدر کرلو۔	۲۰۰
۳۱۔ صحت، مدد اور فرصت کی قدر کرو	۲۰۰

عنوان	صفحہ
۳۲۔ حضرت حسن بصریؑ	۲۰۲
۳۳۔ وقت، سونا چاندی سے زیادہ تیقی ہے۔	۲۰۳
۳۴۔ دور کعت نفل کی قدر	۲۰۴
۳۵۔ مقیرے سے آواز آری ہے	۲۰۴
۳۶۔ صرف عمل ساتھ جائے گا	۲۰۵
۳۷۔ موت کی تمنامت کرو۔	۲۰۶
۳۸۔ حضرت میں صاحب کا کشف	۲۰۶
۳۹۔ زیادہ باؤں سے بچنے کا طریقہ	۲۰۷
۴۰۔ جلدی مثل	۲۰۷
۴۱۔ حضرت تھانویؒ اور وقت کی قدر۔	۲۰۸
۴۲۔ حضرت تھانویؒ اور نظام الادفات	۲۰۸
۴۳۔ سالگرد کی حقیقت	۲۱۰
۴۴۔ گزدی ہوئی عمر کا مرثیہ	۲۱۰
۴۵۔ کاموں کی تین فتنیں۔	۲۱۱
۴۶۔ یہ بھی حقیقت میں برداشتمند ہے۔	۲۱۱
۴۷۔ لیک تاجر کا انوکھا نقصان۔	۲۱۲
۴۸۔ لیک بننے کا قصہ۔	۲۱۲
۴۹۔ موجودہ دور اور وقت کی بچت	۲۱۳
۵۰۔ شیطان نے شیپ ٹلپ میں لگادیا۔	۲۱۵
۵۱۔ خواتین میں وقت کی ناقدری	۲۱۵
۵۲۔ بدله لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔	۲۱۶
۵۳۔ حضرت میں جی نور محمدؐ اور وقت کی قدر	۲۱۶

عنوان

صفحہ

- ۲۱۷ — معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی کا ہے ۵۳
 ۲۱۸ — حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تعلق۔ ۵۵
 ۲۱۹ — دنیا میں کام کا اصول۔ ۵۶
 ۲۲۰ — وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ ۵۷
 ۲۲۱ — اپنے اوقامت کا چھاپنا۔ ۵۸
 ۲۲۲ — یہ بھی جناد ہے۔ ۵۹
 ۲۲۳ — نیک کام کو مت ملاو۔ ۶۰
 ۲۲۴ — دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے۔ ۶۱
 ۲۲۵ — اہم کام کو فویت دی جاتی ہے۔ ۶۲
 ۲۲۶ — تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے۔ ۶۳
 ۲۲۷ — شاید کہ یہ میری آخری نماز ہو۔ ۶۴
 ۲۲۸ — خلاصہ کلام۔ ۶۵

(۳۸) اسلام اور انسانی حقوق

- ۱ آپ کا ذکر مبارک
- ۲ آپ کے اوصاف اور کملات
- ۳ آج کی دنیا کا پرویگنشہ
- ۴ انسانی حقوق کا تصور
- ۵ انسانی حقوق بدلتے آئے جیں
- ۶ صحیح انسانی حقوق کا تھیں
- ۷ آزادی فکر کا علم بردار اورہ
- ۸ آجکل کا سروے
- ۹ کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق ہے؟

صفحہ

عنوان

- | | |
|-----|---|
| ۲۳۴ | ۱۰..... آپ کے پاس کوئی معید نہیں ہے |
| ۲۳۵ | ۱۱..... فلسفی عقل محدود ہے |
| ۲۳۸ | ۱۲..... اسلام کو تسلیمی ضرورت نہیں |
| ۲۳۹ | ۱۳..... عقل کا دائرہ کار |
| ۲۴۰ | ۱۴..... حواس ظاہرہ کا دائرہ کار |
| ۲۴۲ | ۱۵..... تھا عقل کافی نہیں |
| ۲۴۳ | ۱۶..... حقیقت کا تحریک کس طرح ہے؟ |
| ۲۴۴ | ۱۷..... آج کی دنیا کا حامل |
| ۲۴۵ | ۱۸..... وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی |
| ۲۴۶ | ۱۹..... اسلام میں جان کا تحفظ |
| ۲۴۸ | ۲۰..... اسلام میں مل کا تحفظ |
| ۲۴۹ | ۲۱..... اسلام میں آبرو کا تحفظ |
| ۲۵۰ | ۲۲..... اسلام میں معاش کا تحفظ |
| ۲۵۱ | ۲۳..... اسلام میں عقیدے کا تحفظ |
| ۲۵۲ | ۲۴..... حضرت مrtle دو رضی اللہ عنہ کا عمل |
| ۲۵۳ | ۲۵..... حضرت مطہری رضی اللہ عنہ کا عمل |
| | ۲۶..... آج کل کے حیومن رائش |

(۳۹) شب برات کی حقیقت

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| ۲۵۷ | ۱..... دینِ اربع کا ہام ہے |
| ۲۵۸ | ۲..... اس رات کی فضیلت بے نیلوں نہیں |
| ۲۵۹ | ۳..... شب برات لور خیر القریون |
| ۲۶۰ | ۴..... کوئی خاص حبادت مقرر نہیں |
| | ۵..... اس رات میں قبرستان جانا |

صفحہ

عنوان

۲۶۰	۶..... نوافل گھر پر ادا کریں
۲۶۱	۷..... فرض نماز مسجد میں ادا کریں
۲۶۱	۸..... نوافل میں تخلیٰ مقصود ہے
۲۶۲	۹..... تخلیٰ میں ہدایے پاس آؤ
۲۶۲	۱۰..... تم نے اس نعمت کی ناقدری کی
۲۶۳	۱۱..... گوشہ تخلیٰ کے لمحات
۲۶۳	۱۲..... وہاں سکھنے شند نہیں ہوتے
۲۶۴	۱۳..... اخلاص مطلوب ہے
۲۶۵	۱۴..... ہر عبادت کو حد پر رکھو
۲۶۵	۱۵..... حورتوں کی جماعت
۲۶۶	۱۶..... شب برات اور طوہ
۲۶۶	۱۷..... بد علات کی خاصیت
۲۶۷	۱۸..... پندرہ شعبان کا روزہ
۲۶۸	۱۹..... بحث و مباحث سے پرہیز کریں
۲۶۹	۲۰..... رمضان کے لئے پاک صاف ہو جو

اولاد کی اصلاح و تربیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب غلبہ



طبع و ترتیب
مذوبہ مذکون

میمن اسلام ک پیاشریز

بہار، لیاقت کلپور کارپی

تاریخ خطاب : ۱۰ جولائی ۱۹۹۲ء

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
گلشنِ اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب
اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳

صفحات :

آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا ویددار ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہے۔ صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے یوں بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے۔ وہ کہیں جا رہے ہیں اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، یہوی نیچے گناہوں کے سیالب میں بہ رہے ہیں۔ مگر یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اولاً وکی اصلاح و تربیت

الحمد لله نحمد الله و نستعينه و نستغفره و نتوكل عليه و نفعوذ
باقته من شرور انفسنا و من ميئات اعماقنا، من يهدى الله فلامضى له و من يضل الله
فلامضى له، و اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له و اشهد ان ميدنا و
نبينا و مولانا محمد اعبد الله و رسوله، صلوات الله تعالى عليه و علی آلہ واصحابہ و بارک
و سلم تسليماً كثیراً كثیراً - اما بعد!

فَاعُوذُ بِمَا تَوَلَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَمْنَوْا لِلَّهِ أَنْفُسَكُمْ وَآهَدُوهُنَّا إِلَيْهِ أَوْ قُوْدَهُنَّا إِلَيْهِ أَنَّمَا يَعْلَمُهُمْ كَمَّ
غَلَظَ شَدَادُ لَا يَعْصِمُونَ إِذْهَا مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ.

(سورة الحريم: ٤)

امنت باقته مصدق اقته مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم . و
عن عن ذات من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين .

علامہ فوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کتب "ریاض الصالحین" میں لیکن نیا باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی مصلحتی واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھروں، اپنے بیوی پھر اور اپنے ماہت جتنے بھی افراد ہیں، ان کی اصلاح کرنا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا، اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کی ذمے فرض ہے اس مقصود کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے، اور اس میں کچھ آیات قرآنی اور کچھ احادیث نبوی نقل کی ہیں۔

خطاب کا پیارا عنوان

یہ آیت جوابی میں نے آپ کے سامنے حلولت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلموں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا:

یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلموں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ "یا ایها الذین آمنوا" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ہدے حضرت ڈاکٹر عبد العزیز صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ "یا ایها الذین آمنوا" کا عنوان جو اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں۔ یہ براپیار عنوان ہے، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اس خطاب میں براپیار ہے، اس لئے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کا ہم لے کر خطاب کیا جائے، اے قلاں اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے، مثلاً ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا ہم لے کر اس کو پکارے کہ اے قلاں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو "بیٹا" کہ کر پکارے کہ اے بیٹے، ظاہر ہے کہ بیٹا کہ کر پکارتے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لئے اس میں جو لطف ہے، وہ یہاں اور لطف ہم لے کر پکارتے میں نہیں ہے،

لفظ "بیٹا" ایک شفقت بھرا خطاب

شیخ الاسلام حضرت مولانا شیر احمد صاحب ہائل قدس اللہ سرہ، اتنے بڑے علم اور فقیہ تھے۔ ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا تھا جب پاکستان میں توکیا، سدی و نیا میں علم و فضل کے اعتبار سے ان کا مغلی نہیں تھا۔ سدی و نیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا لایا جاتا تھا، کوئی ان کو "شیخ الاسلام" کہہ کر مخاطب کرتا، کوئی ان کو "علام" کہہ کر مخاطب کرتا، بڑے تعظیسی القاب ان کے لئے استعمال کئے جاتے تھے، کبھی کبھی وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اس وقت ہماری دادی بنتی حیات تھیں، ہماری دادی صاحبہ رشتہ میں حضرت علامہ کی مملنی لکھتی تھیں، اس لئے وہ ان کو "بیٹا" کہہ کر پکارتی تھیں، اور ان کو دعارتی تھیں کہ "بیٹا! جیتے رہو" جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ اتنے بڑے علامہ کے لئے سنتے، جنہیں دنیا "شیخ الاسلام" کے لقب سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا اچھہ بنا محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت مفتی صاحب (مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کے گھر میں دو مقصد رہے آتا ہوں۔

لیک یہ کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات، دوسرے یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے "بیٹا" کرنے والا سوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ خاتون مجھے پیٹا کہہ کر پکارتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کا لفظ سننے کے لئے آتا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ مجھے یہ جو "بیٹا" کہہ کر پکدا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔

چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبد الجی ساحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے "بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا" کا خطاب کر کے اس رشتہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو "بیٹا"

کہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات بات کہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں مجکہ جگہ ان الفاظ سے مسلموں کو خطاب فرمائے ہیں۔ انہی جملوں میں سے لیک جگہ یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

آیات کا ترجمہ:

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا فَوْأَنْتُكُمْ وَأَهْلَيْكُمْ فَإِنَّمَا أَوْقَدُهَا
النَّاسُ وَالْجِنَّا هُنَّ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ يُشَدَّ دَلَالًا يَعْصُمُونَ اللَّهَ
مَا أَمْرَهُ وَمَا فَعَلُوكُمْ مَا يُؤْمِنُونَ

اے ایمان والوں! اپنے آپ کو اور اپنے گمراہوں کو بھی آگ سے بچو، وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس آگ کی صفت بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھروں گے، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ اور سرد خوبیں سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھے جاؤ، اور اس سے مطلقاً ہو جاؤ کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیل کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا ویندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صفائی میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مل خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوصرو نواحی ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گمراہ کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، یہوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین آسان کافر ہے، یہ

کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ شرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ان میں نماز کی گھر ہے، نہ فرانض دینیہ کو بجالانے کا احساس ہے، لورنہ گنہوں کو گندہ بچتے کی گھر ہے، بس: گنہوں کے سیالب میں یعنی پنجے بسر ہے ہیں، لورنہ یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صرف دلوں میں حاضر ہوتا ہوں، لورنہ جماعت نماز ادا کرتا ہوں، خوب سمجھے لیں۔ جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی گفرنہ ہو، خود نہن کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی، نہن یہ کہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کامل کرتا، اگر اولاد دوسرا طرف جاری تھی تو میں کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو بچلا بھی تمدے فرانض میں شامل تھا، جب تم نے اس میں کوتھی کی قاب آختر میں تم سے موافق ہو گا۔

اگر اولاد نہ مانے تو!

• آس آہت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، درحقیقت اس میں لیک شہ کے جواب کی طرف اشده فرمایا جو شہرِ عالم طور پر ہمارے والوں میں پیدا ہوتا ہے وہ شہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے یہ کما جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باش ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاو، گنہوں سے بچانے کی گلر کرو، تو اس کے جواب میں عالم طور پر بکثرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لائے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اونچ خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بست کھایا، مگر وہ ماننے نہیں ہیں اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اس راستے پر جا رہے ہیں۔ لورنہ راستہ بدلتے کے لئے تیار نہیں ہیں، اب ان کا عمل بن کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں۔ اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں بھی تو آخر کافر رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، اسی طرح ہم نے بست کوشش کر لی ہے، وہ نہیں ماننے تو ہم کیا کریں؟

دنیاوی آگ سے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں "آگ" کا لفظ استعمال کر کے اس لفکل لور شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو نمیک ہے کہ اگر میں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاء اللہ میں باپ پھر بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اولاد کے کئے کا ویال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن ویکھنا یہ ہے کہ میں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اور کس درجے تک کی ہے؟ قرآن کریم نے "آگ" کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارة کر دیا کہ میں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہئے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سُلک رہی ہے، جس آگ کے پدے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اب آپ کا نادان پچھے اس آگ کو خوش مظہر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اب ہلکا تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اتفاق کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر پچھے کو صحیح کرنا شروع کر دو کر بیٹا! اس آگ میں مت جانا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جلوے کے تو تم جل جاؤ گے، اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی میں باپ صرف زبانی صحیح پر اتفاق کرے گا؟ اور اس صحیح کے پیغام و اگر پچھے اس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ میں باپ یہ کہ کر بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے وہ اس کو سمجھا دیا تھا۔ پنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اس نے تمیں ملا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کو دیا تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی میں باپ ایسا نہیں کریں گے، اگر وہ اس پچھے کے حقیقی میں باپ ہیں تو اس پچھے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیزد حرام ہو جائیں، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی اور جب تک اس پچھے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔

الله تعالیٰ یہ فرمائے ہیں کہ جب تم اپنے پچھے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لئے صرف زبانی مجمع خرچ پر اتفاق نہیں کرتے تو جنم کی وہ آگ جس کی حد نہیں، اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس آگ سے پچھے کو بچانے کے

لئے زبانی جمع خرچ کو کلک کیوں سمجھتے ہو؟ قہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے اسیں سمجھا کر پنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کرنے کی نہیں ہے۔

آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا پیٹا کافر رہا، وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکے یہ بات درست نہیں اس لئے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لائے کی تو سو سال تک لاکاند کوشش کی، اس کے پتو جو د جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی موافقہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کما اور پھر قدر غریب ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہئے کہ ان کو گناہوں سے اسی طرح بچاؤ جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہو، اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بدے میں ہر چیز کی فکر ہے، مثلاً یہ تو فکر ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بننے یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھلنے پینے اور پسند کا انتظام اچھا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں۔

تحوڑا سا بے دین ہو گیا ہے

ہمدرے ایک جانے والے تھے، جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ دیندار اور تجدید گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی طازمت مل گئی ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ ہٹانے لگے کہ شاہ اللہ ہمدرے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا، لب اُن کو طازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کو برا مقام حاصل ہو گیا، البتہ تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر برا شائد رہ بُن گیا۔

اب اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح میں کیا کہ ”وہ پچھہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا۔“ مگر اس کا کیریئر برا شائد رہ بُن گیا۔“ معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بلت نہیں ہے، بس ذرا سی گزیدہ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار ہے۔

اور تجدُر گزدِ آدمی تھے، ”جان“ تو نکل گئی ہے

ہدے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے واکٹر کو بڑایا۔ آکر اس کا معاملہ کرے کہ اس کو کیا ہدایہ ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ واکٹر صاحب نے معاملہ کرنے کے بعد تایا کہ یہ بالکل غمیک شماک آدمی ہے۔ مرے لے کر پاؤں تک تمام اعضاہ غمیک ہیں۔ بس ذرا سی جان نکل گئی ہے۔

بالکل اسی طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے کے بدے میں کہا کہ ”ہاشم اللہ اس کا کیریز تو برداشتدار بن گیا ہے، بس ذرا سابے دین ہو گیا ہے۔“ گویا کہ ”بے دین“ ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے بڑا لمحہ پیدا ہوتا ہو۔

نئی نسل کی حالت

آج ہذا یہ حل ہے کہ لور ہر چیز کی فگر ہے، مگر دین کی طرف توجہ نہیں، بھلی، اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو ہر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تجدُر گزدی کی لور سجدوں میں جانے کی تکلیف کیں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح لہنا کیریز ہالیا ہوتا۔ شروع سے اس بلت کی فگر نہیں کر پچے کو دین کی تعلیم سکھلائی جائے آج یہ حل ہے کہ پیدا ہوتے ہی پچے کو ایسی نرسری میں بیچ دیا جانا ہے جوں اس کو کتابی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ہم نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھلائی جاتیں۔ اس وقت وہ نسل تبدیل ہو کر ہدے سامنے آ جگی ہے، لور اس نے زمام القدر سنبھال لی ہے۔ زندگی کی پاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ جگی ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی اسکوں کلنج کی طرف رخ کیا، لور ان کے اندر ہاتھہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی الیت موجود نہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ہاتھہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچے کے پیدا ہوتے ہی مل باپ نے یہ فگر توہی کہ اس کو

کو نے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیلن اور غدر نہیں۔

آج اولاد مال پاپ کے سر پر سوار ہیں

یاد رکھو، اللہ چڑک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو بذریعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرمادیتے ہیں، مثلاً ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لئے گناہ کیا، اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بذریعہ کیا، تو ہلا خراں اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرمادیتے ہیں، تحریہ کر کے دیکھو۔

آج ہدی صورت حال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بھوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریٹرا اچھا ہو جائے، ان کی آمنی تھی ہو جائے۔ اور محشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے، ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین تھے سکھایا، اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو بذریعہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی غصہ تھی۔ وہی اولاد مال پاپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود محشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے مال پاپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور مال پاپ کے لئے عذاب بھی ہوئی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مال پاپ نے ان کو صرف اس لئے بے دینی کے محل میں بیچ دیا، تاکہ ان کو اچھا کھانا یا نامیر آجائے، اور تھی ملازمت مل جائے، اور ان کو ایسے بے دینی کے محل میں آزاد چھوڑ دیا جس میں مال پاپ کی عزت اور حکمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں مال پاپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے، وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فعلی کرتا ہے، تو اب مال پاپ بیٹھے رورہے ہیں، کہ ہم نے تو اس مقصد کے لئے تعلیم دلائی تھی، مگر اس نے یہ کر لیا۔ تو یہ بہت اصل میں یہ ہے تم نے اس کو ایسے راستے پر چلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہو، تم ان کو جس حرم کی تعلیم دلوار ہے ہو، اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تذہب تو یہ ہے کہ جب مال پاپ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ گمراہ رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرنسنگ ہوم (Nursing Home) میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر صاحزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں مال پاپ کس حال میں ہیں، اور کس چیز کی

ان کو ضرورت ہے۔

باپ "زرنگ ہوم" میں

مغربی مملک کے بدرے میں تو ایسے واقعات بہت سنتے تھے کہ بوڑھا باپ "زرنگ ہوم" میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انتقال ہو گیا، وہاں کے نجمر نے صاحب زادے کو فون کیا کہ جنوب، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو جواب میں صاحب زادے نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ برلا کرم ان کی صحیز و علوفین کا انتظام کر دیں۔ اور برلا کرم میں مجھے بھیج دیجئے میں میں میں کی ادائیگی کر دوں گا۔ وہاں کے بدرے میں تو یہ بات سنی تھی۔ لیکن ابھی چند روز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کراچی میں بھی ایک "زرنگ ہوم" قائم ہو گیا ہے۔ جمل بوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے، اس میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹھے کو اطلاع دی گئی، بیٹھے صاحب نے پہلے تو آئے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس وقت فلاں میلنگ میں جانا ہے۔ اس لئے آپ ہی اس کے کفن دفن کا ہندو بست کر دیں، میں شہین آسکوں گا۔ یہ وہ لولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے خدا کو بذریعہ کیا، اس لئے وہ اب تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خدا کو بذریعہ کرو گے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

جب وہ لولاد سر پر مسلط ہو گئی تو اب میں باپ بیٹھے رورہے ہیں کہ لولاد دوسرے راستے پر جا رہی ہے، اورے جب تم نے شروع ہی سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا، جس کے ذریعہ اس کا ذہن بدلتے، اس کا خیل بدلتے، اس کی سوچ بدلتے تو اس کا انعام بھی ہوتا تھا۔

اندوں تقر دریا تختہ بندم کردہ ای
بازی گئی کہ وامن ترکن ہوشیدہ پاں

پلے میرے ہاتھ پاؤں ہاندھ کر مجھے سمندر کے اندر ڈیو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ ہوشید! دامن ترمٹ کرنا، بھلائی: اگر تم نے پلے اس کو کچھ قرآن شریف پڑھایا ہوتا۔ اس کو کچھ حدیث نبوی سکھلائی ہوتی۔ وہ حدیث سکھلائی ہوتی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولو فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لئے کہ آمد ہوتی ہیں، ایک علم ہے جسے وہ چھوڑ گیا، جسے سے لوگ نفع اخخار ہے ہیں، مثلاً کوئی آدمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اخخار ہے ہیں، یا کوئی آدمی علم دین پڑھاتا تھا، اب اس کے شاگرد آگے علم پڑھار ہے ہیں، اس سے اس مرنے والے شخص کو بھی فائدہ پہنچا رہتا ہے۔ یا کوئی صدقہ جدیہ چھوڑ گیا۔ مثلاً کوئی مسجد بنادی۔ کوئی مدرسہ بنادیا۔ کوئی شفاقتی خانہ بنادیا۔ کوئی کنوں بنادیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اخخار ہے ہیں، ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جلدی رہتا ہے۔ اور تمیری چیز نیک اولاد ہے، جو وہ چھوڑ گیا۔ وہ اس کے حق میں دعائیں کریں۔ تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جلدی رہتا ہے، کیونکہ مل باپ کی تربیت کے نتیجے میں اولاد جو کچھ کر رہی ہے، وہ سب پاپ کے نامہ اعمل میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ حدیث پڑھلائی ہوتی تو آج باپ کا یہ انجام نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں۔ اس لئے اس کا انجام بد آنکھوں کے سامنے ہے۔

حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بھلائی اولاد کو دین کی طرف لانے کی مگر اتنی ہی لازمی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے، اولاد کو صرف زبانی سمجھنا کافی نہیں۔ جب تک اس کی لگراں کی ترپ اسی طرح نہ ہو جس طرح اگر دھکتی ہوئی آگ کی طرف پچھے بڑھ رہا ہو، اور آپ اس کو لپک کر جب تک اخراجیں لیں گے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اسی طرح کی ترپ عمل بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تائید سے بھرا ہوا ہے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے واقعیات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسولو فرماتے ہیں کہ:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

(سورة مریم)

”یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گمراہوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بدرے میں فرمایا کہ جب ان کا خالل ہونے کا تو اپنی سدی لولاد لوار بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی لولاد کو اس گھر کے لئے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہو گا؟ کس طرح مکتوٰے کے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی گلگلہ ہے۔ بس! اپنی اولاد اپنے اللہ و میل کے بدرے میں اس گلگلہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے،“ (سمہ بقوٰ ۱۳۳)

قیامت کے روز ماتحتوں کے بدرے میں سوال ہو گا

پہت صرف لعل و عیل کی حد تک محدود نہیں، بلکہ جتنے بھی ماتحت ہیں، جن پر انسان پہنچا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی جگہ افراد ہے اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص سے سوال ہو گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بست سے شاگرد پڑھتے ہیں۔ قیامت کے روز اس استاد سے سوال ہو گا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو راہ راست پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا؟ ایک مستاجر ہے۔ اس کے ماتحت بست سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں، قیامت کے روز اس مستاجر سے سوال ہو گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

کل حکم راع و کل حکم منقول عن رعیته

یعنی تم میں سے ہر شخص رائی اور تجہیز ہے، اور اس سے اس کی رحمیت کے بدرے میں سوال ہو گا،

(جامع لاصول: ۵/۲۲۳ رقم الحدیث ۲۹۷)

یہ گناہ حقیقت میں آگ ہیں

یہ آیت جو شروع میں علامت کی، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد حضرت

منقی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گمراہوں کو آگ سے بچو، یہ اس طرح کما جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آری ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر میں آری ہے۔ پات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ یہ سب حقیقت میں آگ ہیں۔ ٹھاہے دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ لور خوش مختار معلوم ہو رہے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہیں۔ لور یہ دنیا جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جسم ہی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں گناہوں سے ماوس ہو کر ہماری حس مٹ گئی ہے، اس لئے گناہوں کی کلمت اور آگ محسوس نہیں ہوتی۔ درد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچے حس جطا فرماتے ہیں اور ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔ ان کو یہ گناہ واقعہ آگ کی ٹھکل میں نظر آتے ہیں۔ یا کلمت کی ٹھکل میں نظر آتے ہیں۔

حرام کے ایک لقے کا نتیجہ

دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت قانونی رحمة اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ہاؤلوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گمراہ کھانے چلا گیا، اسی صرف ایک لقرہ عین کھایا تھا کہ یہ احساس ہو سیا کہ کھانے میں کچھ گزبر ہے شاید یہ حلال کی آمنی نہیں ہے، جب حقیقت کی تو معلوم ہوا کہ واقعہ حلال کی آمنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آمنی کا لقہ نا دانت طور پر حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توبہ استغفار کی۔ لیکن اس کے پتو جود دو میئنے تک اس اس حرام لقے کی کلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ملے تک بدہدی یہ خیل لور دوسرا آتا رہا کہ فلاں گناہ کر لوفلاں گناہ کرو، اور گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں کو جبلی اور مرکی فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی کلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے ماوس ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

اندھیرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ یہاں شروں میں بھلی کے عادی ہو گئے ہیں ہر وقت شربھلی کے قسموں سے جگہ رہا ہے، اب اگر چند منٹ کے لئے بھلی چلی جائے۔ تو طبیعت پر گراں مکر رہا ہے، اس لئے کہ نہیں بھلی کی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں، جب وہ راحت چھن جلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ظلمت بہت بڑی لگتی ہے، البتہ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بھلی کی خلک تک نہیں دیکھی، وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ بھی بھلی کے تقصیٰ وہاں جلتے ہی نہیں ہیں ان کو کبھی اندھیرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لئے کہ انہوں نے بھلی کے قسموں کی روشنی دیکھی ہی نہیں، البتہ جس نے یہ روشنی دیکھی ہے، اس سے جب یہ روشنی چھن جلتی ہے۔ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔

یہی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ظلمت کے عادی ہو گئے ہیں، اس لئے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ تقویٰ کا نور عطا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ در حقیقت آگ ہی ہیں، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ :

إِنَّ الدَّيْنَ لَا يُكَلُّونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمُهُمْ
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ لَا يُنْهَا كُلُّ نَعْصَمَةٍ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ لَا يُنْهَا كُلُّ نَعْصَمَةٍ فَمَا ذُكِرَ فِي الْأَذْكُرِ مُنْهَىٰ كُلُّ نَعْصَمَةٍ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ لَا يُنْهَا كُلُّ نَعْصَمَةٍ فَمَا ذُكِرَ فِي الْأَذْكُرِ مُنْهَىٰ كُلُّ نَعْصَمَةٍ

یعنی جو لوگ ٹیہیوں کامل ظلمات کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھارے ہے یہ اس آیت کے تحت اکثر مفسرنے یہ فرمایا کہ یہ مجاز اور استعداہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھارے ہیں، جس کا انجام ہا آخر جنم کی آگ کی خلک میں ان کے سامنے آئے گا، لیکن بعض مفسرنے یہ بیان فرمایا کہ یہ مجاز اور استعداہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے یعنی وہ حرام کا جو لقہ کھارے ہے ہیں، وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا جتنے گناہ ہمارے چہروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت میں آگ ہیں۔ حقیقت میں دوزخ کے الگارے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔

اللہ والوں کو گناہ نظر آتے ہیں

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جسم بصیرت عطا فرماتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بدے میں صحیح اور مستند روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا، یا حسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے پستے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں گناہ پستے ہوئے جا رہے ہیں۔

ایک بزرگ تھے۔ جب وہ اپنے گمر سے باہر نکلتے تو چرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت! آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو چرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کپڑا اٹھا کر باہر نکلتے پر قادر نہیں، اس لئے کہ جب میں پہر لکھا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی، بلکہ میں اپنے نظر آتا ہے کہ کوئی کتاب ہے کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑا ہے، کوئی گدھا ہے، اور مجھے انسنوں کی شکلیں ان صورتوں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں مشکل ہو کر سامنے آجائتے ہیں۔ بہر حال! چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر مشکل نہیں ہے، اس لئے ہم ان گناہوں کو لذت اور راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ گندگی ہے، حقیقت میں وہ تجاست ہے، حقیقت میں وہ آگ ہے۔ حقیقت میں وہ قلمت ہے۔

یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو گناہوں کے آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کی مثل بالکل ایسی ہے جیسے کسی کمرے میں ٹیکس بھر گئی ہو، لب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف دیا سلالی لگانے کی دری ہے، لیکن دیا سلالی دکھنے کے تو پرا کرو آگ سے دھک جائے گا، اسی طرح یہ بد اعمالیں یہ گناہ بخوشی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں آگ ہیں، صرف ایک صور پھونکنے کے دری ہے، جب صور پھونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے دھک جائے گا، ہمارے یہ برے اہمل بھی درحقیقت جسم ہے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے اللہ و عیال

کو بھی پھلو۔

پہلے خود نماز کی پابندی کرو

علامہ فوادی رحمۃ اللہ نے دوسری آہت یہ میان فرمان ہے کہ:

وَأَمْرُ آهَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطِبْرْ عَلَيْهَا

(ط: ۱۳۳)

یعنی اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دو، اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو، اس آہت میں اللہ تعالیٰ نے بھیب ترتیب رکھی ہے بظاہر یہ ہونا چاہئے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھر اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دو، لیکن یہاں ترتیب اللہ دی ہے کہ پہلے اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشده فرمادیا کہ تمہارا پہلے گمراہوں کو یا الولاد کو نماز کا حکم دنا اس وقت تک موڑ اور فائدہ مند نہیں ہو گا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ان کو نماز کے لئے کہتا ہاٹکل ہے کار جائے گا۔ لہذا اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور ان کے لئے ایک مثال اور نمونہ بنو۔

بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو

حدث شریف میں ہے کہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لئے بلایا، بچہ آنے میں ترد کر رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس ایک کجھور تھی۔ اور یہ کجھور اس کو دینے کی نیت تھی،

آپ نے فرمایا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہوتی۔ تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا، لور گنڈا ہوتا۔ اس لئے کہ تم پچھے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو گویا اس کے دل میں پھیپن سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا لور وعدہ خلافی کرنا کوئی الگی بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت میں اس بہت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہوی بچوں کو جو بھی حکم دو، پسلے خود اس پر عمل کرو، لور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو،

بچوں کو تربیت دینے کا انداز

آگے علامہ قویٰ رحمة اللہ احادیث لائے ہیں۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن بنت

على رضوانه عليهما تبرة من تبر الصدقة فجعلها في

علمت املاه ناسکل الصدقۃ؟

(جایع لاصول: ۳/۶۵۷ رقم الحاشیة ۲۷۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاطرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب کہ ابھی بچھی تھے۔ ایک مرتبہ صدقہ کی سمجھو روں میں سے ایک سمجھو راخا کر اپنے منہ میں رکھ لی، جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا ”کنج کنج“ کنج کنج ”عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں ”تحو تھو“ کہتے ہیں یعنی اگرچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے، تو وہ اس کی شناخت کے انہد کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلاونا مستحکم ہو تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہر حال! حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کنج کنج“ یعنی اس کو منہ سے نکل کر پیدا کر دو، کیا تمیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقہ کا مل نہیں کھاتے

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرجب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ اور بعض مرجب پیاساگی ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت

حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور جب آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر بچپے آماد دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ:

۔ مدخلۃ و محبینۃ۔

یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اس لئے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادالی میں ایک سمجھور بھی منہ میں رکھ لی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ اس سمجھور کو کھا جائیں۔ مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت دیتی تھی۔ اس لئے فدائہ سمجھور منہ سے نکلوالی۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

بچوں سے محبت کی حد

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بچے کی تربیت چہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مل باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر نوکری کاررواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی مل باپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ محبت اور لاؤ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن مل باپ ان غلطیوں پر نوکتے ہی نہیں، مل باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کی روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہرے بھلکی، یہ سوچو کہ اگر وہ بچے نادان ہیں مگر تم تو نادان نہیں ہو، تمہد افرض ہے کہ ان کو تربیت دو، اگر کوئی پچھے ادب کے خلاف، تیزی کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ تو اس کو بتانا مل باپ کے ذمے فرض ہے، اس لئے کہ وہ بچے اسی طرح بد تربیت بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا دبیل تمہدے اور

ہے کہ تم نے اس کو اپنے دارے سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ بہر حال! اس حدیث کو ہم لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی لگا میں رکھو،

حضرت شیخ الحدیث کا ایک واقعہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لپھا لیک
قد کھا ہے کہ جب میں چھوٹا پچھہ تھا تو میں باپ نے میرے لئے ایک چھوٹا سا خوبصورت
نگریہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لئے بنایا جاتا ہے، مجھے اس نگریہ سے بڑی محبت
تھی، اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب یعنی اچھے
رہے تھے۔ ان کو مجھے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ: بلاجی! میرا
نگریہ نے مجھے یہ کہ کر میں نے اپنا نگریہ ان کو اس طرح پیش کیا، جس طرح کہ میں نے اپنا
دل نکل کر باپ کو دے دیا، لیکن جس وقت وہ نگریہ میں نے ان کو پیش کیا، اسی وقت
والد صاحب نے مجھے ایک چپٹ رسید کیا۔ اور کہا کہ ابھی سے تو اس نگریہ کو اپنا نگریہ کتنا
ہے، مقصود یہ تھا کہ نگریہ تو در حقیقت باپ کی عطا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا
یا اپنا قردار ناگلط ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے
بہت بر الگا کہ میں نے تو لپھا دل نکل کر باپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے
ایک چپٹ لگا دیا۔ لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی بد ریک بات پر اس وقت والد صاحب نے
جبکہ فریلی تھی۔ اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی
پاؤں پر مل باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر پچھے کی تربیت صحیح ہوتی ہے، اور پچھے صحیح
طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔

کھانا کھانے کا ایک ادب

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ سَلَمَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْأَبْدِ
رَبِّيْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتَ غَلامًا فِي جَنَّةٍ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِيْ تَطْبِيشَ فِي الصَّفَّةِ،
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غَلامُ سَمِّرَ اللَّهُ، وَ
بِيمِينِكَ. وَكُلْ مَا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تَلَكَ طَعْمَتِي بَعْدَ -

(جامع الاصول: ۷/۳۸۸ رقم المحتوى ۵۲۲۵)

حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ام المومنین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے لکھ فرمایا تو یہ ان کے ساتھ ہی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس لئے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیب یعنی سوتیلے بیٹے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا پچھہ تھا۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا، ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقہ اٹھایا۔ کبھی دوسری طرف سے۔ اور کبھی تیسرا طرف سے لقہ اٹھایا۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے! کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ اور وادھنے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے، وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا نہیں نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس پر حنیفہ فرماتے اور صحیح ادب سکھاتے۔

یہ اسلامی آداب ہیں

ایک اور صحابی حضرت عکاش بن زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک نوالہ ادھر سے لیا۔ اور دوسرا نوالہ ادھر سے لے لیا۔ اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ابے عکاش، ایک جگہ سے کھاؤ، اس لئے کہ کھانا ایک جیسا ہے ادھر ادھر سے کھانے سے بد تذہیبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے کھاؤ، حضرت عکاش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے قدر ہوئے تو ایک برا تعلل لایا گیا جس میں مخالف

حتم کی سمجھو ریں بھری ہوئی تھیں۔ مثلاً مشورہ ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چمچ کو بھی پھونک پھونک کر دیتا ہے۔ چونکہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائچے تھے کہ لیک جگہ سے کھاؤ۔ اس لئے میں نے وہ سمجھو ریں ایک جگہ سے کھانی شروع کر دیں۔ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لیک طرف سے سمجھو رہاتے، سبھی دوسری طرف سے رہاتے۔ اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھاتا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے عکراش! تم جمل سے چاہو کھاؤ، اس لئے کہ یہ مختلف حتم کی سمجھو ریں ہیں۔ اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہے۔ پھر دل تمہارا دوسری حتم کی سمجھو رہاتے کو چاہ رہا ہے۔ تو ہاتھ پڑھا کر دہاں سے سمجھو رہا کر کھاؤ۔

(مختصر المساجع ص ۳۶۴)

کویا کہ اس حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی حتم کی چیز ہے تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف حتم کی چیزیں ہیں تو دوسرے اطراف سے بھی کھا سکتے ہو۔ اپنی اولاد اور اپنے محلہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھل چھی۔ یہ سدے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں۔ اور اپنے گھروالوں کو سکھانے کے ہیں یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاملہ و ممتاز ہوتا ہے۔

”عن عمر و بن شعیب عزت ابینه عن جده رضوان الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرروا اولادكم
بالصلوة و هم ابناكم سبع واذر بوها علىها. و هم ابناكم
عشر، و فرقوا بينهم في المصالحة“

(جامع الاصول: ۵/۸۷/ رقم الحدیث ۳۲۲۲)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب تک سلت سل کے ہو جائیں یعنی سلت سل کے پچھے کو نماز پڑھنے کی تائید کرنا شروع کرو، اگرچہ اس کے ذمے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی ہاتے کے لئے سلت سل کی عمر سے تائید کرنا شروع کرو، اور جب دس سل کی عمر ہو جائے، اور پھر بھی نمازت پڑھے تو اس کو نمازت پڑھنے پر مدد،

اور دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر لگ لگ کر دو، ایک بستر میں دو بچوں کو نہ
سلاؤ،

سات سال سے پہلے تعلیم

اس حدیث میں پولا حکم یہ دیا کہ سات سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو،
اس سے معلوم ہوا کہ سات سال سے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں،
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ
بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال تک نہ پہنچ جائے، اس پر کوئی
بوجہ نہیں ڈالنا چاہئے، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی غیر
شروع کر دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تھے حضرت فرمایا
کرتے تھے کہ اللہ میں تو سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہا رہے ہیں، مگر تم
سات سال سے پہلے اس کو روزہ رکھوانے کی غیرہ نہیں ہو، یہ تھیک نہیں۔ اسی طرح سات
سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اسی لئے کہا گیا کہ سات سال
سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا تھیک نہیں۔ البتہ کبھی کہد اس کو اسی شرط کے ساتھ
مسجد میں لاسکتے ہیں کہ وہ مسجد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہیں کرے گا۔ تاکہ وہ تھوڑا
تھوڑا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ بوجہ ڈالنا درست
نہیں۔

گھر کی تعلیم دے دو

بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجہ ڈالنا بھی
مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کو دے کے اندر اس کو پڑھادو، لیکن باقاعدہ اس پر
تعلیم کا بوجہ ڈالنا، اور باقاعدہ اس کو طالب علم ہنانا تھیک نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں
یہ وبا ہے کہ بس پچھے تین سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی غیرہ شروع ہو گئی، یہ غلط ہے۔ صحیح
طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تین سال کا ہو جائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ و
رسول کا کلہ سکھادو، اس کو کچھ دین کی باتیں سمجھادو، اور یہ کام گھر میں رکھ کر جتنا کر

سکتے ہو، کر لو بقی اسکو مکلف کر کے باقاعدہ نرسری میں بھیجننا۔ اور خاطبے کا طالب علم ہنا
دینا اچھا نہیں۔

قدی فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ہدے بزرگ حضرت مولانا قدی فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان
کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کا ذمہ مجھہ تھے، جن لوگوں نے ان کی
زیدات کی ہے۔ ان کو معلوم ہو گا۔ سدی زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری، اور
حیث میں جو یہ دعا آتی ہے کہ یا اللہ! قرآن کریم کو میری رُگ میں پیوست کر دیجئے۔
میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میرے جسم میں پیوست کر دیجئے، میری روح میں
پیوست کر دیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی یہ دعا ان کے حق میں پوری طرح
قبول ہو گئی کہ قرآن کریم ان کے رُگ و پے میں پیوست ہا۔

قدی صاحب قرآن علیک تعلیم کے عطا میں بڑے سخت تھے جب کوئی بچہ ان
کے پاس آتا تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اس کو پڑھنے کی بست مانید
کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال نہ ہو
جائے، اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ یوجہ ڈالا دوست نہیں، اس لئے اس سے اس
کی نشوونما رک جلتی ہے، اور اسی لذ کر رہا باحیث میں استدلال فرماتے تھے کہ حضور قدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دینے کے لئے سات سال عمر کی قید لکھی
ہے۔

جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو پھر وقت رفتہ اس پر تعلیم کا بوجہ ڈالا جائے۔
یہ مل تک کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس وقت آپ نہ سرف تاریخ مدنی کی
اجازت دی۔ بلکہ مد نے کا حکم دیا کہ اب وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مددو،

بچوں کو ملنے کی حد

یہ پہت بھی سمجھ لئی چاہئے کہ استاد کے لئے یا مل بھپ کے لئے بچے کو اس حد
تک ملننا جائز ہے، جس سے بچے کے جسم پر مدد کا نشان نہ پڑے۔ آج کل یہ جو ہے

تحاشہ ملنے کی جو رہت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے مکتبوں میں مارکٹلی کارروائج ہے۔ اور بعض اوقات اس مارکٹلی میں خون کل آتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا نشان پڑ جاتا ہے، یہ عمل لتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سمجھو میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معلق کی کیا شکل ہو گی؟ اس لئے کہ اس گناہ کی معلق کس سے مانگے؟ اگر اسے پچھے سے مانگے تو وہ نابالغ پچھے معاف کرنے کا کالالی نہیں ہے، اس لئے کہ اگر نابالغ پچھے معاف بھی کر دے تو شرعاً اس کی معلق کا اعتبار نہیں اس لئے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معلق کا کوئی راستہ سمجھو میں نہیں آتا، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس لئے استاد اور مل باپ کو چاہئے کہ وہ پچھے کو اس طرح نہ مل دیں کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تحت جمل ملنا ناگزیر ہو جائے۔ صرف اس وقت ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔

بچوں کو ملانے کا طریقہ

اس کے لئے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے، اور ایسا نسخہ وہی بتا سکتے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرماتے تھے کہ جب کبھی اولاد کو ملنے کی ضرورت محسوس ہو، یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آرہا ہو اس وقت نہ مل دو، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مل لو اس لئے کہ جس وقت طبعی غصہ کے وقت اگر مل دو گے یا غصہ کرو جائے تو پھر حد پر قائم نہیں رہو گے، بلکہ حد سے تخلوڑ کر جاؤ گے، اور جو بلکہ ضرورت ملنا ہے، اسی لئے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مل دو، تاکہ اصل مقصود بھی حاصل ہو جائے، اور حد سے گزرنابھی نہ پڑے۔

او، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سدی عمر اس پر عمل کیا کہ طبعی غصے کے وقت نہ کسی کو مل الورت ڈائنا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اس کو بلا کر مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر سکے وہ مقصود حاصل کر لیتا۔ تاکہ حدود سے تخلوڑ نہ ہو جائے۔ کیونکہ غصہ لیکی ایسی چیز ہے کہ اس میں انہیں اکثر دیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔

بچوں کو تربیت دینے کا طریقہ

اسی نے حضرت قانونی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرمایا کرتے تھے۔ جو اگرچہ کلی اصول تو نہیں ہے، اس نے کہ حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پر عمل کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، تھیک اس وقت میں اس کو سزا دنے مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ وقت پر فوکٹ سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس نے بعد میں اس کو سمجھادو، یا سزا دیتی ہو تو سزا دیدو، دوسرے یہ کہ ہر کام پر ہر بار فوکٹ رہنا بھی تھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک مرتبہ بخاکر سمجھادو۔ کہ فلاں وقت تم نے یہ غلط کام کیا۔ فلاں وقت یہ غلط کیا اور پھر ایک مرتبہ جو سزا دیتی ہے دے دو۔ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر نہان کی جیلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات نہ ان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، اس نے کہ اس کا بہترن علاج وہی ہے، جو ہمارے حضرت قانونی قدس اللہ سرہ نے تجویز فرمایا۔ بس حال! اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی کبھی مددنا بھی چاہئے، آج کل اس میں افراد و تفریط ہے، اگر مدد میں گے تو حد سے گزر جائیں گے، یا پھر بالکل مددنا چھوڑ دیا ہے، لوری یہ سمجھتے ہیں کہ پیچے کوئی کبھی نہیں مددنا چاہئے، یہ دونوں ہاتھیں غلط ہیں وہ غلط ہے، لوری یہ تفریط ہے، اعتدال کا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا۔

تم میں سے ہر شخص نگران ہے

آخر میں وہی حدیث لائے ہیں جو یہ کہے کہی مرتبہ آچکی ہے

وَعَنْ أَبْنَىٰ مُحَرِّضَةٍ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ حَمْرَاءٍ وَكُلُّ حَمْرَاءٍ مَسْؤُلٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، الْأَمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فَ
أَهْلُهُ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ نَوْجَاهَوْ

مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فمال سيدة ومسئول

عن رعيتها، فكلمه راع ومسئول عن رعيتها.

(جامع الاصول: ۵۰/۲ رقم الحديث ۲۰۲۸)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نہیں ہے ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی ذمہ داری اور نسبانی کے بدلے میں سوال ہو گا، امام یعنی سربراہ حکومت ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بدلے میں آخرت میں سوال ہو گا کہ تم نے ان کے ماتحت کیا برداشت کیا؟ ان کی کسی تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیل رکھا؟ اور مرد اپنے گمراہ والوں کا یوں بچوں کا گمراہ لوار نہیں ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہو گا کہ یوں پچھے جو تمہارے پرورد کئے گئے تھے ان کی کسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کئے؟ حورت اپنے شوہر کے گمراہ کی نہیں ہے، جو چیز اس نسبانی میں دی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہو گا کہ تم نے اس کی کس طرح نسبانی کی؟ اور نوکراپنے آقا کے مل میں نہیں ہے۔ یعنی اگر آقانے پیے دینے ہیں تو وہ پیے اس کے لئے امانت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بدلے میں سوال ہو گا کہ تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا؟

لذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے رائی ہے اور جس چیز کی نسبانی اس کے پرورد کی گئی ہے، قیامت کے روز اس سے اس کے بدلے میں سوال ہو گا،

اپنے ماتحتوں کی نگران کریں


اس حدیث کو آخر میں لانے کی فضایہ ہے کہ بہت صرف بچہ اور لولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً گمراہ کے اندر اس کے ماتحت یوں پچھے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی دکاندار ہے، تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام

کرتا ہو گا، اگر کسی شخص نے فیکٹری نکالی ہے، تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت کچھ عملہ کام کرتا ہو گا، یہ سب اس کے ماتحت اور تابع ہیں لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور ان کو دین کی طرف لائی کی کوشش کرنا انہن کے ذمے ضروری ہے۔ یہ شے بھے کہ میں اپنی ذات یا اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جو لوگ تمہارے زیر دست اور ماتحت ہیں، ان کو جب تم دین کی بات ہتھ گے تو تمہاری بات کا بست زیادہ اثر ہو گا، اور اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ اور اگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں جتلی تو اس میں تمہارا تصور ہے۔ اور اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں تمہارا تصور ہے کہ تم نے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمل کہیں جس شخص کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی فکر کریں۔

صرف وس منٹ نکال لیں

اس میں تک نہیں کہ آج کل زندگیں مصروف ہو گئیں ہیں، اوقاتِ محمود ہو گئے، لیکن ہر شخص اتنا توکر سکتا ہے کہ جو بیس گھنٹے میں سے پانچ دس منٹ روزانہ اس کام کے لئے نکال لے کہ اپنے ماتھتوں کو دین کی بات سنائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنادے، کوئی وعظ پڑھ کر سنادے، ایک حدیث کا ترجمہ سنادے، جس کے ذریعہ دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، اگر ہر شخص اس کام کی پابندی کر لے تو انشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

وآخر دعوا ما انت الحميد مثه رب العالمين



والدین کی خدمت

جنت کا ذریعہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مشتی محمد تقی عثمانی صاحبِ قلم



مطبع و تحریر
من عبید اللہ بنین

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰، بیانت نگار، کراچی

تاریخ خطاب : ۲۸ اگست ۱۹۹۲ء

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
گلشنِ اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر نامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳

صفحات :

یاد رکھئے اس دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان سب میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہے، لدن دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملتے گی، لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے، لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والدین کی خدمت، جنت کا ذریعہ

اما بعد، فاعُوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسْمِ الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْمَعْرُوفُ وَالْمَتَّاْفِي وَالْمَالِكُونَ وَالْجَارُونَ فِي الْمَعْرُوفِ، وَالْجَارُ الْجَنِّيُّ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنِّيِّ وَابْنُ السَّمَاءِ، وَمَا كَمَلَتْ أَيْمَانُكُمْ، (الثَّارِ، ٣٦)

أمنت باذنه مدق الله مولاًنا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، و
هُنْ هُنْ ذُرْقَمِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

حقوق العباد کا بیان

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیکہ نیا باب قائم فرمایا ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صدر حجی کے بیان میں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو اس کتاب "ریاض الصالحین" میں جمل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بعض حقوق العباد کا بیان گزرن چکا ہے، ان حقوق کے بارے میں حضور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ سن چکے ہیں اس نئے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک لور رشتہ والدوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آیات اور احادیث لائے ہیں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ:

افضل عمل کونسا؟

"عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ؟ قَالَ: الْمَسْلَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: شَدَّادٌ؟ قَالَ: بِرَالوالدِينِ، قَدْلَتْ؟ قَالَ: الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

(جمع بخاری، باب مواقيت الصلاة حدیث ثبر نمبر ۵۰۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محظوظ عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محظوظ عمل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، میں نے پھر پوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محظوظ عمل کونسا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، میں نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیرے نمبر پر محظوظ عمل کونسا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔"

اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فرمائی گئی کہ سب سے افضل اور پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور تیرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو۔

نیک کاموں کی حرص

ہم دو باتیں سمجھنے کی ہیں: ایک یہ کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے مختلف موقع پر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون ہے ۱۹۲۸ سے صحابہ کرام کی یہ فکر لوری یہ حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لور افضل ہو اس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور وہ عمل ہلدی زندگیوں میں آجائے، اس لئے کہ ہر وقت دل و دملغ پر آخرت کی فکر طلبی تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آخرت میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب لور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لئے ہر وقت یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا اجر و ثواب ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

آج ہم لوگ فضائل کی احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قلاں عمل میں یہ فضیلت ہے۔ قلاں عمل میں یہ فضیلت ہے پڑھتے بھی ہیں۔ سنتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا حقہ عمل داعیہ پرداشیں ہوتا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حامل یہ تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کے بدے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ثواب کا کام ہے بس اس کی طرف دوڑتے تھے۔

افوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیئے

ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنلی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درشاو فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنائز میں شریک ہو، تو اس کو ایک قیراط اجر ملے گا، "قیراط" اس زمانے میں ایک پیلانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سو چاندی کا وزن کیا جاتا تھا اور جو شخص نماز جنائز کے بعد اس کے پیچے چلے اس کو دو قیراط ملیں گے، اور جو شخص اس کی تفہین میں بھی شامل ہو، اس کو تین قیراط اجر ملیں گے۔ ویسے تو "قیراط" ایک چھوٹا سا پیلانہ ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا "قیراط" احمد پہلا سے بھی

بڑا ہے۔

جب یہ حدیث حضرت ابو حیرۃ رضی اللہ عنہ نے سنائی تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً افسوس کا انہد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پہلے شیش سنی، جس کی وجہ سے ہم بہت سے قیراط ہلالع کر دیئے۔ مقصود یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنائزہ پڑھنے اور جنائزہ کے پیچھے چلتے، اور تذفین میں شرکت کی ایسی فضیلت ہے، اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا اہتمام کرتا، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت سے ”قیراط“ ضائع ہو گئے۔ حلاکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مشغله ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا تھا، جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے لیکن اس کے پار موجود جب ایک نیا عمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں اب تک یہ عمل اختیار نہیں کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام کا یہی حل نظر آتا ہے کہ ہر وقت اسی ٹکر میں ہیں کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل

ہو۔

سوال ایک جواب مختلف

ایسی لئے بدر بد صحابہ کرام حضور نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ روایات میں یہ نظر آتا ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیئے۔ مثلاً اس حدیث میں آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، ایک حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ ایک صحابی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے لرشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر کر جدی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل و اللدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کسی محالی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، فرض یہ کہ مختلف صحابہ کرام کو آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطا فرمائے، بظاہر اگرچہ ان جوابات میں تفاسیر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تفاوت نہیں۔

ہر شخص کا افضل عمل جدا ہے

بات دراصل یہ ہے کہ ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بدلتا رہتا ہے، کسی شخص کے لئے نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لئے والدین کی اطاعت سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لئے جہاد سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لئے ذکر سب سے افضل عمل ہے، حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے، مثلاً بعض صحابہ کرام کے پڑے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ نماز کی توجیہ بھی پابندی کرتے ہیں، ان کے ساتھ نماز کی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن والدین کے حقوق میں کوئی ہوری ہے، توبہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل والدین کی اطاعت ہے کسی محالی کا عبادت کی طرف تو زیادہ دھیان تھا۔ مگر جہاد کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے افضل عمل جوانی سنبھل اللہ ہے، کسی محالی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا التفات نہیں ہے، ان کو فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ لہذا مختلف صحابہ کرام کو ان کے حالات کے لحاظ سے آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیئے۔ لیکن یہ سب فضیلت والے اعمال ہیں، یعنی وقت پر نماز پڑھنا۔ والدین کی اطاعت کرنا، جوانی سنبھل اللہ کرنا، ہر وقت ذکر اللہ کرنا وغیرہ، البتہ لوگوں کے حالات کے لحاظ فضیلت بدلتی رہتی ہے۔

نماز کی افضلیت

اس حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کی ترتیب یہ بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ وقت کا الحافظ کر کے نماز پڑھنا، بعض اوقات انہیں وقت کا دھین نہیں کرتا۔ اور وقت مگر زور تھا ہے۔ لور یہ سوچتا ہے کہ نماز قضاہ ہو گئی تو ہونے دو۔ یہ انہیں کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز ادا کرنے کی غفران کرے، قرآن کریم کی آیت ہے:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةِ فِتْحِهِ سَاخِرُونَ۔

(العنون: ۳)

یعنی ان نمازوں پر افسوس ہے، جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں.....۔ نماز کا وقت آیا۔ اور چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کی طرف دھین نہیں دیا، یہاں تک کہ نماز قضاہ ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الذی تفوته صلاۃ العصر کا عما و ترا اہله و مالہ

یعنی جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وقت گزر گیا۔ اور نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایسا ہے جیسا اس کے سارے گھروالے لٹ گئے اور سدا مل لٹ گیا، جس طرح وہ شخص تک دست اور مغلوب الحلال ہے اسی طرح وہ شخص بھی مغلوب الحلال ہے جس کی ایک عصر کی نماز قضاہ ہو گئی ہو، لہذا نماز کو قضاہ کرنا بڑی سختیں ہاتے ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لئے نماز کا بھی دھین ہونا چاہئے، لور نماز کے وقت کا بھی دھین ہونا چاہئے۔

جہاد کی افضلیت

اس حدیث میں دوسرے نمبر پر افضل عمل ”والدین کے ساتھ حسن سلوک“ کو قرئ دیا، لور تیرے نمبر پر جما فی سیل اللہ، گویا کہ والدین کی لحاظت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد جیسی حبادت پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد اتنی بڑی حبادت ہے، اور اس کے اتنے فضائل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لور اس جہاد میں شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اس

طرح گناہوں سے پاک صاف کر کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج میں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

(مجمع علیٰ باب حُجَّۃٍ الْجَلِیل، حدیث نمبر ۲۷۷۲)

ایک حدیث میں ہے کہ جب ایک انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقابلت قرب کا مشلبہ کرے گا، اور جنت کا مشلبہ کرے گا تو اس کے دل میں کبھی دنیا میں واپس آئے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، کہ میں دنیا میں واپس جاؤں، اس لئے کہ دنیا کی حقیقت کھل کر اس کے سامنے آجائے گی۔ کہ یہ دنیا اس جنت کے مقابلے میں کتنی بے حقیقت، کتنی ناپاسیدار اور کتنی گندی چیز تھی، جو جنت اس کو مل گئی ہے۔ لیکن وہ شخص جو جملو کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہو۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بیچھے دیا جائے۔ اور وہاں جا کر دوبارہ جملو کروں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔

اسی لئے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جملو کروں، اور شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں واپس آئے کی خواہش نہیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش کرے گا، جملو کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔

(مجمع علیٰ بباب حُجَّۃٍ الشہادۃ، حدیث نمبر ۲۷۷۳)

والدین کا حق

لیکن والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العہاد ہیں، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب لاحرام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے

بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج لور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں،

بے غرض محبت

یاد رکھئے: اس دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبتیں اور تعلقات میں نہ کوئی نہ کوئی غرض ضرور داہستہ ہے، اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملتے گی، سوائے والدین کی محبت کے لیئے والدین کی اپنی لولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس محبت میں ان کا لپٹا کوئی مقاد اور کوئی غرض شامل نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت بے غرض نہیں، مثلاً شوہر بیوی سے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، بیوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں غرض ہے، بھائی بھائی سے محبت کرے، یا ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے، غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے نہ رض غرض شامل ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کلار فرماتی ہے، لیکن ایک محبت غرض سے پاک ہے، وہ مل باپ کی محبت ہے، لیئن مل باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے۔ لیکن اولاد کو فائدہ حاصل جانے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا، اور جملوں قبیل اللہ پر بھی اس کو مقدم فرمایا۔

والدین کی خدمت

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضیرہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اگر غرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا بہت دل چلتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جناد کروں، اور جناد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ صرف اسی غرض کے لئے جناد میں جانا چاہتا ہوں، حضیرہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ثواب حاصل کر لے کے لئے جناد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جوب دیا، ہاں! یا رسول اللہ، میں صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمدارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والدین زندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جلو لور جا کر ان کی خدمت

کرو، اس لئے کہ اگر تمیں اجر حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے حمیں جو اجر حاصل ہو گا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہو گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :

”فَفِيهِمَا فِي جَاهَدَةٍ“

یعنی جا کر ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، ان روایات میں والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔

(مجموعہ علاری، بہب نمبر ۱۳۶ حدیث نمبر ۲۸۳۲)

اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھلی! اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس وقت کا کیا تقاضہ ہے؟ بس! اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام دین ہے اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلاں چیز کا شوق ہو گیا ہے، اس شوق کو پورا کر رہا ہوں، مثلاً کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ہمیشہ صاف اول میں نماز پڑھوں، کس کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں کلوں، اگرچہ یہ سب کام دین کے کام ہیں۔ اور باعث اجر ثواب ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ مثلاً گھر کے اندر والدین بیدار ہیں، اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن تمیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے صاف اول میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں، اور والدین اتنے پیدا ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اب اس وقت میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضہ یہ ہے کہ صاف اول کی نماز کو چھوڑو، اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تھا پڑھ لو، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حل میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لئے مسجد میں چلے گئے اور صاف اول میں جا کر شال ہو گئے تو یہ دین کی اتبع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہو

یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کمیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وقت لگے گا، اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر مسجد کم کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد میں جا کر جماعت ہی سے نماز ادا کرنی چاہئے۔

یہ دین نہیں ہے

ہدے حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثل دی، فرمایا کہ فرض کریں کہ ایک ویرانے جگل میں ایک شخص اور صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کوئی شخص قریب میں موجود نہیں، اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے، اب یہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لئے میں تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کروں گا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس ویرانے جگل کے اندر میں تھا ہوں۔ کوئی پاس نہیں۔ اب اگر تم نماز کے لئے دور آبادی میں چلے گئے تو اس ویرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان کل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے صاف اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، میں تو صاف اول میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ اور اس فضیلت کو میں حاصل کروں گا۔ چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین نہ ہوا، یہ تو صاف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر رہا ہے، اس لئے کہ اس وقت دین کا تفاہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور وہیں پر تھا نماز پڑھو، اگر ایسا نہیں کروے گے تو پھر اپنا شوق پورا کرنا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو گی۔

یا مثلاً کمرنگ والدین ہیں، بیوی بیچے بیڈ ہیں، اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جاتا ہوں۔ دیکھئے، ویسے تبلیغ میں جاتا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں

جب کہ والدین یا بھوی بچوں کو تمدیدی خدمت کی ضرورت ہے اور تمدیدی خدمت کے بغیر ان کا کام نہیں چلے گا۔ تو اس حالت میں یہ لپٹا شوق پورا کرنا ہو گا یہ دین کا تقاضہ نہ ہو گا۔ لور دین لپٹا شوق پورا کرنے کا ہم نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا ہم دین ہے، جس وقت جس کام کا تقاضہ ہے، اس وقت اس کو انجام دو۔

آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ نیک صحابی آئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایں جنادیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرمادیا، اور فرمایا کہ تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ جا کر والدین کی خدمت کرو۔

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، لور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آخرپرست صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت لور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشرف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیدار ہیں، اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آخرپرست صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرمادیا۔ لور یہ فرمادیا کہ تم یہاں میری زیارت لور ملاقات کے لئے مت آؤ۔ بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔

(صحیح مسلم، کتب الفضائل، باب من فحائل اولیس قرنی، رضی اللہ عنہ، حدیث ثبر ۲۵۲۸)

بھلا تلایے! کیا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو گا۔ اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات تھے، اس وقت آپ سے ملاقات لور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہو گا جب کہ آج یہ

حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے کتنے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے۔ لیکن آپ کی زیارت کے شوق، اس کی بے چینی اور بیتلی کو مل کی خدمت پر قربان کر دیا، آپ نے حکم فرمادیا کہ مل کی خدمت کرو، اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو، چنانچہ حضرت اولیٰ قرآن رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا۔ جس کے نتیجے میں "صحابت" کا مقام چھوٹ گیا۔ اس لئے کہ "صحابت" کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے اور "صحابی" وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتے، مگر وہ کسی "صحابی" کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔

"صحابت" کا مقام

حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ مشہور بزرگ فقیہ، محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ — سوال کرنے والے شخص نے یہ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا اختیاب کیا جن کے بدرے میں لوگوں نے طرح طرح کی مختلف باتیں مشور کر رکھی ہیں، اور الہ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کی لا ای حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو اس لا ای میں حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق تھے، اور حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ سے لحتادی غلطی ہوئی تھی اس عقیدے پر تقریباً ساری امت متفق ہے۔ بہرحال! صحابہ کرام میں سے تو ان صحابی کو لیا جن کی تخصیت ممتاز فیہ رہی ہے، اور دوسری طرف سوال میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اختیاب کیا۔ جن کو عدل و انصاف اور تقویٰ طہارت وغیرہ میں "عمر بن علی" کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ بہرحال! حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھلکی! تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت

محلویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ لرمے! حضرت محلویہ تو درکندر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلو کرتے ہوئے جو مٹی حضرت محلویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں گئی تھی، وہ مٹی بھی ہزار عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے، اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے "صحابیت" کا جو مقام حضرت محلویہ رضی اللہ کو عطا فرمایا تھا، سدی زندگی انہیں کوشش کرتا رہے، تب بھی "صحابیت" کا دو مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

(البداۃ والنهاۃ، ج ۱ ص ۱۳۹)

مل کی خدمت کرتے رہو

بہر حال! حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمادیا کہ ہمدی زیارت کی ضرورت نہیں، اور "صحابیت" کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مل کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی ناداشناس ہو تو اپنے کہتا کہ یہ "صحابیت" کی دولت بعد میں تو ملتے والی نہیں، اگر مل پیدا ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلا ہوتا ہے، اس لئے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ۔ اور چاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آجائو۔ گروہاں تو لپٹا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذائقی خواہش پوری نہیں کرنی تھی۔ بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احاطت کا شوق تھا۔ اس لئے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا۔ اور گھر میں مل کی خدمت میں لگے رہے حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔

مل کی خدمت کا صلہ

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کو مل کی خدمت کا یہ صلہ مطا فرمایا کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر قدوق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر! کسی زمانے میں "قرن" یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مردہ آئے گا۔

جس کے یہ اوصاف یہ حلیہ ہو گا، جب یہ آدمی حمیس میں جائے تو اے عمر! اپنے حق میں ان سے دعا کر اتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔

چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قاتلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قاتلے میں لویں قربی ناہی کوئی شخص ہیں؟ جب ایک مرتبہ قاتلہ آیا لور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں لویں قربی تشریف لائے ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاحت کی لور ان کا کام دریافت کیا اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت لویں قربی نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرنے کیوں کر تشریف لائے؟ اس پر حضرت عمر قادرق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دیست قربی تھی کہ جب ”قرن“ سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا کر لانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت لویں قربی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فریباً۔

دیکھئے! حضرت قادرق اعظم رضی اللہ عنہ چیزے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کرو۔ یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے۔ اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ (صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۵۳۲)

صحابہ کی جانشنازی

کون صحابی ایسا تھا جو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشناز اور فداکار نہ ہو، میں نے ایک مضمون میں ایک بات لکھی تھی اور وہ بات صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں اضافہ کرنے کے قتل ہوتا تو تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی

سدی جائیں پھر لور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے، وہ صحابہ اتنے فدا کار تھے ان کا تو یہ حل
تھا کہ وہ کسی وقت یہ نہیں چاہتے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جلو انور نگہوں
سے روپیش ہو، یہاں تک جگ کے میدان میں بھی یہ بات گوارہ نہیں تھی۔ حضرت ابو
وجانہ رضی اللہ عنہ جن کو جگ احمد میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست
بندک نے ٹکوڑہ عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جب دشمنوں کی طرف مقابلے کے لئے لگا تو
اس وقت دشمنوں کی طرف سے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوجھاڑ آری
تھی۔ اس وقت حضرت ابو وجانہ رضی اللہ عنہ تیروں کی طرف پشت کر کے لور حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چڑھ کر کے کڑے ہو گئے۔ لور سدے تیراپنی پشت پر
روکنے لگے۔ لور سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے سدے تیراپنی پشت پر
لینے لگے۔ یعنے پر اس لئے کہ اگر تیروں کو اپنے سینے پر سامنے سے روکیں تو
حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ لور حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم
کا جلو جہل آرائشوں سے لو جمل ہو جاتا۔ لذا جگکی حالت میں بھی یہ احتیلا ہے کہ
پشت حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔
لور چڑھ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔

بھر حل! صحابہ کرام جو پناہیک لیک لو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں گزارنے کے لئے بے چین تھے لیکن حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
صحابہ میں سے کسی کو شام بیچج دیا۔ کسی کو یعنی بیچج دیا کسی کو مصر بیچج دیا، اور یہ حکم دیا
کہ وہاں جا کر میرے دین کا پیغام پہنچو۔ جب یہ حکم آگیا تو اب حضور کی خدمت میں
رہنے کا شوق قربان کر دیا۔ لور حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تقلیل کو مقدم
رکھا۔ لور مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔

ہمارے حضرت والا الیک عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کے قابل ہے
وہ یہ کہ دین وقت کے تباہی پر عمل کرنے کا ہم ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت کا کیا تفاہم
ہے؟ وہ کام انجام دو، لوزا اگر وقت کا تفاہم والدین کی خدمت ہے، پھر جہلو بھی اس کے
آگے بے حقیقت ہے تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس
کے آگے بے حقیقت ہے، چاہے ان سب مصلحت کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں اس
لئے یہیہ اس بات کو مر نظر رکھنا چاہئے۔

والدین کی خدمت گزاری کی اہمیت

والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ والدین کی خدمت سلامی عبادتوں پر مقدم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دو نیں بالکل تعدد آیات نازل فرمائیں، چنانچہ لیک آیت میں ارشاد فرمایا کہ :

وَوَصَّيْتَا أَلِإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ مُحَثَّ

(النکبوت: ۸)

یعنی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی صحت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معلمہ کرو اور ایک دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُ فِرَّارِ الْأَرْيَادَةِ وَبِالْوَالِدِينِ إِخْسَانًا

(الاسراء: ۲۳)

یعنی ایک یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دیکھئے اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، کہ اللہ کے نام توحید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک گویا کہ توحید کے بعد انسان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر

پھر اس کے آگے کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :

إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُمْ الْيَتَامَةَ أَوْ كِلَّاهُمَا فَلَا قُنْ

لْهُمْتَأْتِ - (الاسراء: ۲۳)

یعنی اگر تمدنی زندگی میں تمدنے والدین بڑھاپے کو بخج جائیں۔ تو پھر ان والدین کو کبھی ”اف“ بھی مت کرنا۔ اور بڑھاپے کا ذکر اس لئے کیا کہ جب مل باپ بوڑھے ہو جلتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض لوگات ذہن مذہل نہیں رہتا۔ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باؤں پر اصرار بھی کرتے ہیں، اس لئے خاص طور پر بڑھاپے کا

ذکر کیا کہ چاہے مل باپ وہ باشیں کہ رہے ہیں جو تمہارے خیل میں غلط اور ناقص ہی کیوں نہ ہوں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ”اف“ بھی مت کرو، اور ان سے جھڑک کر بلت نہ کرنا، اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا، اور آگے فرمایا۔
 وَالْخِفْضُ لَهُمَا بِحَنَاحَ الْذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَتَنِي صَغِيرًا ○
 (الاسراء: ۲۳)

اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور یہ دعا نگتے رہنا کہ یا اللہ! ان کے اوپر رحمت فرمائیے۔ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پلا تھا۔ بڑھاپے کے اندر اگر مل باپ کے مزارج میں ذرا سا چڑھپا! پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر ”اف“ مت کرو، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

سبق آموز واقعہ

میں نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا۔ معلوم نہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن یہ سابق آموز واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک سابب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے سخن میں باپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک کو اگر کے دیوار پر آ کر بیٹھے گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان! یہ کوہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: ببا جان! یہ کوہے، پھر جب تھوڑی دنیز گزر گئی تو باپ نے پوچھا کہ بیٹے! یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا: ابا جان! ابھی تو آ۔ کوہتا یا تھا کہ یہ کوہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا: یہ کیا۔ . . . بیٹے کے لمحے میں تبدیلی آگئی اور اس نے جھڑک کما کر ببا جان! کوہے کوا، پھر خونز دیر کے بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے۔ اب بیٹے سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہیں ہزار مرتبہ کہہ دیا کہ یہ کوہے؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ بہر حال، اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈائٹ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لایا، اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا! یہ ذرا پڑھنا، کیا لکھا ہے؟ چنانچہ اس نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا

تھا۔ اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک کوا آگیا، تو بیٹھے مجھ سے ۲۵ مرتبہ پوچھا کر لیا جان یہ کیا ہے؟ تو میں ۲۵ مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹھا، یہ کوئی ہے، اور اس ادا پر بڑا یار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کہا! بیٹھا! دیکھو! باپ اور بیٹھے میں یہ فرق ہے، جب تم پڑھتے تو تم نے مجھ سے ۲۵ مرتبہ پوچھا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اندر کیا کہ مجھے اس کی ادا پر بڑا یار آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ پوچھا تو تمیں اتنا غصہ آگیا۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک

بهر حال! اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو! کہ بڑھاپ کی عمر تک پہنچنے کے بعد میں باپ کے اندر تھوڑا سا چیز چڑھا پن بھی پیدا ہو جائے گا۔ ان کی بہت سی باتیں نہ کوئی بھی معلوم ہوں گی۔ لیکن اس وقت تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بچپن میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے میں باپ نے برداشت کی ہیں۔ لہذا تمہیں بھی ان کی نہ کوئی باتوں کو برداشت کرنا ہے، میں تک کہ اگر میں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے کے بدرے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا:

فِإِنْ جَاهَدَاكُمْ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِنِي مَالَكَيْنَ لَهُنَّ بِهِ عَذَابٌ
فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبِهِنَّ إِنَّهُمْ مُغْرِّرُونَ۔

(القمر: ۱۵)

یعنی اگر تمہارے والدین کافر مشرک ہوں، تو پھر شرک میں تو ان کی اطاعت مت کرنا لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے، اس لئے کہ اگرچہ وہ کافر ہے، لیکن تمہارا باپ ہے، تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تائید فرمائی ہے، آج کی دنیا ہر معاملے میں ایسی جاری ہے، اب تو باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احترام ان کی عظمت کا نقش اولاد کے دلوں سے مٹایا جائے۔ اور باقاعدہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں باپ بھی انسان ہیں، اور ہم بھی انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔

جب انسان سے دین سے دور ہو جاتا ہے، لور اللہ لور اللہ کے رسول کی الماعت کا جذبہ ملکہ پڑ جاتا ہے، لور آخرت کی لگر ختم ہو جلتی ہے تو اوقت اس حتم کی ہاتھ پردا ہو جلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہدی حکایت فرمائے۔ آمين

والدین کی نافرمانی کا ویل

ببر حل! یہ عرض کرتا تھا کہ والدین کی الماعت واجب ہے اگر والدین کسی کام کا حکم دیں تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، لور بالکل ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے بشرطیکہ مل بپ جس کام کا حکم دے رہے ہیں، وہ شرعاً جائز ہو۔ لور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گنہ ہے، جیسا نماز پڑھنا نہ گنہ ہے، اسی کو "حقوق الولدین" کہا جاتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی، لور بزرگوں نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا ویل یہ ہوتا ہے کہ مرستہ وقت کلر نصیب نہیں ہوتا۔

عبرت ناک واقعہ

لیکھ مخفی کا واقعہ لکھا ہے کہ اسی کی موت کا وقت آیا، لور نزع کا وقت ہے، سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے۔ مگر زبان پر کلمہ جلدی نہیں ہوتا، چنانچہ لوگ لیک بزرگ کو لائے، لور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکلا جائے اس کی زبان پر کلمہ جلدی نہیں ہو رہا ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والدہ حیات ہوں تو ان سے اس کے لئے معلمی مانگو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کے تینجی میں اس پر یہ ویل آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معلمی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جلدی نہیں ہو گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا، لور ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک اور ویل کی چیز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احترام، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ رکھا۔ جو محلی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے۔

علم کے لئے والدین کی اجازت

ہمارے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم دانٹے کے لئے آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا شوق ہے۔ عالم بخنسے اور درس نظامی پڑھ کر قدرِ تحصیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ والدین کی اجازت سے آئے ہو؟ تو معلوم ہوتا کہ والدین کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ ہم کیا کریں والدین نہیں اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لئے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، مولوی بننا کوئی فرض نہیں والدین کی اطاعت کرنا فرض ہے ہاں! اگر والدین اتنا علم بھی حاصل کرنے سے روک دیں جس سے انسان ایک مسلم جیسی زندگی کر لے سکے، مثلاً نماز کا طریقہ سمجھنے سے روکیں، تو اس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں، لیکن مولوی بننا (پورے دین کا علم حاصل کرنا) فرض واجب نہیں، لہذا جب تک والدین اس کی اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ نہ کرے، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بخنسے میں لگے گا تو وہی بات ہو گی جو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ پنا شوق پورا کرنا ہو گا۔ یہ دین کا کام نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين

جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ

یاد رکھو! جب تک والدین حیات ہیں تو وہ اتنی بڑی فتحت ہیں کہ اس روئے زمین پر انسان کے لئے اس سے بڑی فتحت کوئی لور نہیں جیسا کہ حدیث میں حضور نہ دس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں باب کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھو تو ایک رج اور ایک عمرہ کا ثواب ہے، اسی لئے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرائے۔ اس لئے کہ اگر میں باب بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا تنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، بس ذرا سی ان کی خدمت کر لو گے تو ان کے دل سے دعائیں جائے گی۔ اور تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ بہاذ بہانے سے تم جنت کا سکتے ہو، بس حل! والدین جب تک حیات ہوں ان کو فتحت سمجھ کر ان کی

قدر کریں، اس لئے کہ جب والدین امتحن جاتے ہیں تو اس وقت حضرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدرت نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کمال، بعد میں خسوس ہوتا ہے۔

والدین کی وفات کے بعد تلائی کی صورت

اکثر وہ شتری ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد لواد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمتِ کھودی اور ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کوئی تباہی کی ہو، لور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، اس کی تلائی کے دورانے ہیں، ایک ان کے لئے ایصالِ ثواب کی کثرت کرنا۔ جتنا ہو سکے ان کو ثواب پہنچائیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا توفیق پڑھکر ہو، یا قرآن کی تلاوت کر کے ذریعہ ہو، اس کے ذریعہ اس کی تلائی ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ والدین کے اعزہ اقرباء و دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے جیسا ہمپ کے ساتھ کرنا چاہئے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو تباہی کی تلائی فرمادیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

مل کے تین حق باب کا ایک حق

”عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحيفتي؟ قال: أنت، قال: ثم من؟ قال: شعمن؟ قال: أنت، قال: ثم من؟ قال: أنت، قال: ثم من؟ قال: أبوك“
 (جامع الأصول، جلد ایک، ص ۲۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لور آگر پوچھا کر یا رسول اللہ! سلی دنیا کے انہوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے

زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: تمدنی مل بھنی سدے انہوں میں سب سے زیادہ تمدنے حسن سلوک کی حق تمدنی مل ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا: تمدنی مل، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمدنی مل ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو چوتھے نمبر فرمایا: تمدن اب پ۔

تین مرتبہ مل کاہم لیا، آخر میں چوتھے نمبر پاپ کاہم لیا، اس واسطے علماء کرام نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ مل کا حق حسن محبت میں باپ سے بھی زیادہ ہے مل کے تین حق ہیں، اور باپ کا ایک حق ہے، اس لئے کہ پیچے کی پروردش کے لئے میں جتنی مشقتیں جھیلتی ہیں، باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جھیلتا، اس لئے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے میں کے بیان فرمائے۔ اور ایک حصہ باپ کا بیان فرمایا۔

باپ کی تعظیم، مل کی خدمت

اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ یا احتجاج رہنا ہو تو مل کو زیادہ رہنا چاہئے، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے "تعظیم" اس میں تو باپ کا حق مل پر مقدم ہے، اور دوسری چیز ہے "حسن سلوک" لور "خدمت" اس میں ما کا حق باپ پر مقدم ہے۔ "تعظیم" کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسکی عظمت زیادہ ہو، اس کی طرف پاؤں پھیلا کر رہا بیٹھے، اس کے سر حانے نے بیٹھے یا جو تعظیم کے آداب ہیں، اس میں باپ کا حق مقدم ہے، لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں مل کا حق مقدم ہے، لور باپ کے مقابلے میں تین چوتھائی زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مل کے اندھیہ ہاتھ رکھی ہے کہ مل کے ساتھ لاولاد کی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے، بہت سی باتیں بینا کھل کر باپ سے خیس کرہے سکتا، لیکن مل کے سامنے وہ کہہ رہا ہے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البدری میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا یہ اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم زیادہ کرے، اور مل کی خدمت زیادہ کرے، اس اصول کے ذریعہ احادیث کے درمیان بھی

تحقیق ہو جاتی ہے۔

مل کی خدمت کا نتیجہ

بہر حال! مل کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہل سے کہل تک پہنچادتی ہے جیسا کہ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے والائے میں دیکھا، لور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی حل ذکر کیا گیا ہے، مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پارے میں یہ بات مشہور ہے، کہ ایک مردہ تک صرف مل کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب اُنکی خدمت سے فارغ ہو کئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بست لوٹا چاہا مقام عطا فرمایا، لذ اس خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہئے۔

”وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوا اللہ عنهم قال: أقبل
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعك على المجرة
وابالجحاد امتنى الاجر من الله تعالى، فقال: هل من والديك
احد حتى؟ قال: نعم، بل كل هما، قال: فتبتغي الاجر من الله
تعالى؟ قال: نعم، قال: فارجع الامر والديك فاحسن
صحبتهما؟“
(مسند احمد: ج ۵ ص ۳۶۸)

و اپس جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

یہ حضرت عبد اللہ بن عمر و العاص رضی اللہ عنہم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضیرہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آیا ہوں، ایک بھرت پر لور ایک جلو پر، یعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لئے جمرت کے ارادے سے آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلب مگر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں بلکہ والد اور والدہ دونوں زندہ

ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجر و ثواب چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھی ہاں! یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

جاکر مال باب کو ہنساؤ

ویکھئے! اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قریان فرمادیا، اور ان کو والپیش فرمادیا، لیک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، ایک صاحب حضور نقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جہاد میں شریک ہونے کے لئے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتنا سچا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کے لئے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے پیوجود میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدلی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا:

اساجح فاضح حکمہما کما ابکیتہما

(مسند احمد: ج ۲ ص ۲۰۳)

واپس جاؤ، اور ان کو جس طرح روتا چھوڑا تھا، اب جاکر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تمہیں میرے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت نہیں۔

دین "حفظ حدود" کا نام ہے

یہ ہے حفظ حدود، اسی لئے ہم دے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے "حفظ حدود" کا یہ کوئی دین نہیں کہ جب جہاد کی فضیلت سن لی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یہک باسگے ہو گئے

ہیں، جیسے اگر گھوڑے کی ایک باگ ہو تو وہ ایک صرف ایک ہی طرف چلے گا۔ دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا، اسی طرح لوگ بھی ایک باگ ہو سکتے، یعنی جب یہ سن لیا کہ فلاں کام بڑی فضیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ذمے اور کیا حقوق واجب ہیں، اور دوسرے کاموں کی کیا حد ہے؟

اہل اللہ کی صحبت

اور یہ "حفظ حدود" کی بات عادۃ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی، جب تک کس اللہ والے کی صحبت میرنہ آئے، زبان سے میں نے بھی کہہ دیا، اور آپ نے سن بھی لیا، کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دینی ہے، یہ بات کس کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور آدمی افراط و تفریط ہی میں ہتھ لارہتا ہے شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت کیا کام کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چیز بہتر ہے، اور کیا چیز بہتر نہیں، حضرت حکیم الامت مولانا الشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سره کے پاس اصلاح کے لئے لوگ آتے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظیفے چھڑا دیتے، اور دوسرے کاموں پر لگا دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اس کام پر لگا رہے گا تو حدود کی حفاظت نہیں کرے گا۔

شریعت، سنت، طریقت

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد العزیز صاحب قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ "حقوق" تمام تر شریعت ہے، یعنی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، اور بندوں کے حقوق اور "حدود" تمام تر سنت ہے یعنی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے، حق اللہ کی حد کمال تک ہے، اور حق العبد کی حد کمال تک ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہتھی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ اور "حفظ حدود" تمام تر طریقت ہے، یعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کہا جاتا ہے۔ ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، یعنی وہ حدود جو سنت سے ثابت ہیں، ان کی حفاظت

تصوف اور سلوک کے ذریعہ ہوتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ "شریعت" تمام تر حقائق، سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حفظ حدود، بس! اگر یہ تمن چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن عادۃ یہ چیزیں اس وقت حاصل نہیں ہوتیں، جب تک انسان کسی اللہ والے کے سامنے رُگڑے نہ کھلتے، اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو پامل نہ کرے۔

قُلْ رَبِّكُمُ الْرَّحْمَنُ صَاحِبُ الْحَالِ شُو بُشِّرْ مَرْدَنَةِ كَالْ پَامِلِ شُو

جب تک آدمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامل نہیں کریگا۔ اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفريط ہی میں جتلارہے گا کبھی اوہ رجھک گیا، کبھی اوہ رجھک گیا۔ سدے تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو افراط و تفريط سے بچائے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمين۔

وَأَخِرُّ دُعَوَاكُمَا أَنِّيَ الْمُمْدُوذُ شَهِرَتُ الْعَالَمَيْنَ

غیبت ایک عظیم گناہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیم



طبع و ترتیب
مجمعہ شاہزادین

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸۰ء۔ لیاتست بود کراچی

نارتخ خطاب : ۱۰ دسمبر ۱۹۹۳ء

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
گلشنِ اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب
اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲

: صفحات

یہ نیبت ایسا کبیرہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اور جیسے بد کاری کرنا کبیرہ گناہ ہے، جس یہ گناہ حرام قطعی ہیں۔ اسی طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، پھر کیا وچہرے، کہ ہم شراب پینے اور بد کاری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن نیبت کو گناہ نہیں

مجھے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غیبت

زبان کا ایک عظیم گناہ

الحمد لله خمده و نستعينه و نستفزع و نؤمن به و نتوكل عليه، و نفرج بالله من شرور افسوس من میثات اعمالنا من يهدى الله فلامضيله ومن يضلله فلا هادى له و اشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهدان سيدنا و سندنا و شفيعنا و مولانا محمدًا عبد الله و رسوله صلى الله تعالى عليه و علّف آله و اصحابه و بارك و مسلم تسليماً كثیراً كثیراً.

أَمَّا بَعْدُ فَاعْوُذُ بِإِلَهِ الْجِئْنِ وَبِشَرِّ إِلَهِ التَّخْرِيجِ
وَلَا تَجَسُّوْ وَلَا يَعْتَبْ بِعَصْكُلَةِ بَقْتاً، أَمْرِبْ أَخْدُكْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخْرِيْ وَمَيْتَا
كَفَرْ هَمْتُوْ وَقَاتَلُوا إِلَهَ، إِنَّ إِلَهَ تَوَابُ وَتَحِيقُّ.

(سورة الجبر : ٤٢)

امنت باهتم مصدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله العزير الحکیم فعن
عن ذلك من الشاهدین والشکرین والحمد لله رب العالمین۔

”غیبت“ لیک سخنیں گناہ

لهم تو دی رحمۃ اللہ علیہ ان گناہوں کا بیان شروع فرمائے ہیں، جو اس زبان

سے سرزد ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس گناہ کو ذکر فرمایا جس کا رواج بست ذیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ، یہ ایسی غیبت ہے جو ہدی مجلسوں پر اور ہدیے معاشرے پر چھاگنی ہے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گنگوہ اس سے خالی نہیں۔ حضور نعمت مصلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت دعیدیں میان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم نے غیبت کے لئے اتنے سمجھنے الفاظ استعمل کئے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لئے اتنے سمجھنے الفاظ استعمل نہیں کے۔ چنانچہ فرمایا کہ

وَلَا يَغْتَبْ بِقُمْشَةٍ بَعْثَتْ، أَمْبَحْتْ أَحَدُكُفْهَ أَنْ تَأْكُلْ لَعْنَةً

آخِبْتْ مَيْتَةً فَكَرِهَتْهُوَهُ

یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو (کیونکہ یہ نیا براعمل ہے، جیسے اپنے مردار بھلی کا گوشت کھانا) کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھلی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بت برا کر سکتے ہو۔ لذا جب تم اس عمل کو برا کر سکتے ہو تو غیبت کو بھی برا کر سکو۔ اس میں زرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی شاعت میان فرمائی ہے، ایک توہن کا گوشت کھانا، اور آدم خور بن جاتا ہی کتنی شاعت کی بات ہے، اور انہوں بھی کونسا؟ اپنا بھلی، اور بھلی بھی زندہ نہیں۔ بلکہ مردہ، اپنے مردہ بھلی کا گوشت کھانا جتنا سمجھنے ہے؟ اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا سمجھنے اور خطرناک ہے۔

”غیبت“ کی تعریف

غیبت کے کیا معنی کیا ہے؟ غیبت کے معنی ہیں! دوسرے کی چینہ پہنچے برلنی میان کرنا، چاہے وہ برائی سمجھ ہو، وہ اس کے اندر پالی جا رہی ہو، غلطانہ ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شدہ ہو گا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک محلی نے حضور نعمت مصلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ مصلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا

ذَكْرُ كَ أَخْرَى فَبِإِيمَرْهُ

یعنی اپنے بھلی کا اس کے چینہ پہنچے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ پسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو پڑھ لے کے میرا ذکر کر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا، تو اس کو تکلیف

ہو، اور وہ اس کو برائی کے، تو یہ غیبت ہے ان محلی نے پھر سوال کیا کہ
اٹ کان فی اخی ما اقول

اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعہ موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو
آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی واقعہ موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ
خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور تم اس کی طرف جسمی نسبت کر رہے ہو، تو پھر یہ
غیبت نہیں، پھر تو یہ بستک بن جائے گا۔ اور دوسرا گنہ ہو جائے گا۔

(ایو داؤد، کتابِ لادب، ہب فی الغيبة، حدیث نمبر ۳۸۷۳)

لب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھئے کہ کس قدر اس کا
رواج ہو چکا ہے، اور دن رات اس گنہ کے اندر جلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت
فرماۓ۔ آمین۔ بعض لوگ اس کو درست ہنانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت
نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ جب میں
یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ غیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو،
چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو، یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے بس
اگر تم کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گنہ کبیرہ
ہے۔

”غیبت“ گنہ کبیرہ ہے

اور یہ ایسا ہی گنہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بد کاری کرنا، کبیرہ گناہوں
میں داخل ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام قلی ہیں، یہ بھی حرام قلی ہے
 بلکہ غیبت کا گنہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے زیادہ سمجھیں ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق
العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے
 اس وقت تک وہ گنہ معاف نہیں ہو گا، دوسرے گنہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں
 لیکن یہ گنہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہو گا، اس سے اس گنہ کی سمجھیں کا اندازہ کیا جاسکتا
 ہے۔ خدا کے لئے اتر کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں، اور نہ غیبت نہیں، اور جس
 مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، اس میں گفتگو کا رخ بد لئے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا

موضوع چیز دیں، اگر گفتگو کا رخ نہیں بدلتے، تو پھر اس مجلس سے انہ کر جائے آئیں۔ اس لئے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے، لور غیبت سنتا بھی حرام ہے۔

یہ لوگ اپنے چہرے نوچیں گے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا عَرَجَ فِي مَرْوَى بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ
مِنْ خَاسِنِ يَخْمَسُونَ بِهَا وَجْهُهُمْ وَصَدْرُهُمْ فَقَلَمَتْ :
مِنْ هُنَالِكَ يَا حِبْرِيلَ ؟ قَالَ هُنَالِكَ الْذِيْتَ يَا كَلْوَنَ لَهُمْ
النَّاسُ وَيَقْعُدُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ .

(ابو داؤد، کتب الادب، بہب فی النیۃ، حدیث نمبر ۲۸۷۸)

حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ حضور نبی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، دس سال تک حضور نبی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صد شویں حصہ نبی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات سورج میں مجھے لوپر لے جائیا گیا، تو وہاں میرا گزر آئیے لوگوں پر ہوا، جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ کاگوشت کھاتے تھے، اور لوگوں کی آبرداؤں پر حملہ کیا کرتے تھے۔

غیبت، زنا سے بدتر ہے

چونکہ اس گمراہ کو حضور نبی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہئے، تاکہ ہم دے دلوں میں اس کی شناعت اور قباحت بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی شناعت ہم دے دلوں میں بخادے، اور اس شناعت اور قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت میں ان کا یہ انجام ہو گا کہ اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں جو سند کے اعتبار سے بت مصوب نہیں ہے، مگر

معنی کے اعتبار سے صحیح ہے وہ یہ کہ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا
گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، لور وجہ اس کی یہ بیان فریلی کہ خداوند کرے اگر کوئی زنا
میں چلا ہو جائے تو جب کبھی نذامت اور شرمندگی ہو گی، اور توبہ کر لے لگا تو انشاء اللہ
معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو گا جب تک وہ شخص
معاف نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔
(مجموع الرؤا وائد، باب ماجاه فی الغيبة والنبیة، ج ۸ ص ۹۱)

غیبت کرنے والے کو جنت سے روک دیا جائے گا

ایک حدیث میں حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت
کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کئے ہوں گے،
نمایز پڑھیں، روزے رکھے، عبادتیں کیں، لیکن جس وقت وہ لوگ پل صرطاً پر سے
گزریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صرطاً ایک پل ہے جو جسم کے اوپر سے
گزرتا ہے، ہر فلن کو اس کے اوپر سے گزرتا ہے، لب جو شخص جنتی ہے، وہ اس پل کو پر
کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے۔ جس کو جسم میں جلا ہے، اس کو اسی پل
کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا، اور جسم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے
والوں کو پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا، لور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے
نہیں بڑھ سکتے، جب تک اس غیبت کا کفارہ ادا نہ کر دو گے۔ یعنی جس کی غیبت کی ہے ان
سے جعلی نہ ملک لو گے، اور وہ تمہیں معاف نہ کر دے اس وقت تک جنت میں داخل
نہیں ہو سکتے۔

بد ترین سو ڈغیت ہے

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سو در آنہ
ذیر دست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، لور بہت سے گناہوں کا مجموعہ
ہے، اور اس کا ادنیٰ گناہ ایسا ہے۔ العیۃ بالله۔ جیسے کوئی شخص اپنی ملک کے ساتھ بد
کاری کرے، دیکھئے، سو در آنی سخت دعید آئی ہے، کہ ایسی دعید اور کسی گناہ پر نہیں

آئی۔ پھر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سو دیے ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلم بھائی کی آبرو پر حملہ کرے، کتنی سخت و معید بیان فرمائی۔

(ابو داؤد، کتاب الادب بہب فی الغيبة، حدیث نمبر ۲۸۷)

غیبت، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے

ایک روایت میں ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین حصیں، انسوں نے روزہ رکھا، لور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئیں، جس کے نتیجے میں غیبت تک چیخ گئیں کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے لور آکر بتایا کہ یا رسول اللہ ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا، مگر اب کی حالت بت خراب ہو رہی ہے، لور پیاس کی وجہ سے ان کی جان بیوں پر آری ہے، لور وہ خواتین مرنے کے قریب ہیں، آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان خواتین نے غیبت کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم فرمایا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ، جب ان خواتین کو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا یا گیا تو آپ نے دیکھا کہ واقعۃ وہ لب و م آئی ہوئی ہیں، پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ، چنانچہ پیالہ آیا تو آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم فرمایا کہ تم اس پیالے میں نے کرو، جب اس نے نے کرنی شروع کی تو قے کے ذریعہ اندر سے پیپ اور خون اور گوشت کے ٹکڑے خدرج ہوئے۔ پھر دوسری خاتون سے فرمایا کہ تم نے کرو، جب اس نے نے کی تو اس میں بھی خون اور پیپ لور گوشت کے ٹکڑے خدرج ہوئے۔ یہاں تک وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون لور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت کھایا تھا۔

تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تواہناب کر لیا، لیکن جو حرام کھلا تھا، تھی دوسرے مسلم بھائی کا خون لور گوشت کھلا اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے پیشوں میں یہ چیزیں بھر گئی حصیں، اس کی وجہ سے

تم دونوں کی یہ حالت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ کبھی غیبت کا لر تکاب مت کرنا
گویا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے غیبت کی صورت مثلى دکھادی کہ غیبت کا یہ انجام
ہوتا ہے۔

پہت دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ ہدی حس مت
بھی ہے، جس کی وجہ سے گندہ کی شناخت اور تباہت دل سے جلتی رہی ہے۔ لیکن جن
لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سليم عطا فرماتے ہیں۔ اور ذوق سليم عطا فرماتے ہیں۔ ان کو اس کا
شلبہ بھی کرا دیتے ہیں۔

غیبت کرنے پر عبرت ناک خواب

چنانچہ ایک تابعی جن کا ہم حضرت ریحی ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دکھا کر لوگ بیٹھے ہوئے باشی کر رہے ہیں، میں
بھی اس مجلس میں بیٹھے گیا اب باشی کرنے کے دوران کسی آدمی کی غیبت شروع ہو گئی،
مجھے یہ بات بری گئی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس
مجلس سے انٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، تو آدمی کو چاہئے
اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو۔ بلکہ انٹھ
کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا، تھوڑی دری بعد خیل آیا کہ اب اس مجلس میں غیبت کا
 موضوع ختم ہو گیا ہو گا، اس لئے میں دوبارہ اس مجلس میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اب
 تھوڑی دری ادھر ادھر کی باشی ہوتی رہیں، لیکن تھوڑی دری کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی،
 لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی، اور میں اس مجلس سے نہ انٹھ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ
 کر رہے تھے، پسلے تو اس کو ستارہ الور پھر میں نے خود بھی غیبت کے لیک دو جملے کر
 دیئے۔

جب اس مجلس سے انٹھ کر گمراہیں آیا اور رات کو سویا تو خوب میں ایک انتہائی
 سیلہ قام آدمی کو دیکھا، جو ایک بڑے سے طشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔
 جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے اور وہ سیلہ قام آدمی مجھ
 سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھلو، میں نے کہا کہ میں مسلم آدمی ہوں، خنزیر کا

گوشت کیسے کھلوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، لور پھر زردستی اس نے گوشت کے نکلے اٹھا کر میرے منہ میں نھونے شروع کر دیئے، اب میں منع کرتا جا رہا ہوں۔ وہ نھونتا جا رہا ہے یہاں تک کہ مجھے ملکی اور ق آنے لگی، سُکر وہ نھونتا جا رہا تھا، پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا پدر بودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور تمیں دن تک میرا یہ حل رہا جس وقت بھی میں کھانا کھاتا، تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا پدر تین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مشتبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کا برآذائقہ میں تمیں دن تک محسوس کر تا رہا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

حرام کھانے کی ظلمت

بات دراصل یہ ہے کہ اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہماری حس خراب ہو گئی ہے اس لئے گناہ کا گناہ ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت میں کھانے کے ایک دو لقے کھائے تھے۔ وہ کھانا کچھ مشتبہ ساتھا، اس کے حرام ہونے کا کچھ شبہ تھا۔ بعد میں فرماتے تھے کہ میں نے وہ ایک یادو لقے جو کھائے تو اس کی ظلمت میتوں تک قلب میں محسوس ہوتی رہی، اور بار بارے خیالات دل میں آتے رہے، گناہ کرنے کے داعیے دل میں پیدا ہوتے رہے، اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی رہی۔

گناہ کا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اس ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آدمی بڑھنے لگتا ہے، اور گناہوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حس کو درست فرمادے آمین۔ بہر حال یہ غیبت کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطا فرمادے دی جان لکتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس سے اندازہ کریں کہ

یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔

غیبت کی اجازت کے موقع

البته ایک بات ذرا سمجھے لجھتے ہے یہ کہ غیبت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کسی کا پیشہ یچھے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو ناگوار ہو، چنان ہے بات صحیح کی جا رہی ہو، یہ ہے غیبت۔ لیکن شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، انسان کی فطرت کی بھی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، لذ اغیبت سے چند چیزوں کو مستثنی کر دیا ہے، اگرچہ بظاہر وہ غیبت ہیں۔ لیکن شرعاً جائز ہیں۔

دوسرے کے شر سے بچانے کے لئے غیبت کرنا

مثلاً ایک شخص ایک ایسا کام کر رہا ہے، جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندازہ ہے اب اگر اس دوسرے کو اس کے بدے میں نہ ہتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں سے نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ اس دوسرے شخص کو بتا دیں کہ فلاں شخص سے ہوشیدر رہنا تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ بات خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھادی، ہربات بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک صاحب ہماری طرف سامنے سے آرہے تھے، ابھی وہ صاحب راستے ہی میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشده کر کے مجھ سے فرمایا

کہ
بشن اخوا العثیرة

یہ شخص اپنے قبیلے کا برآ آدمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی کہ یہ برآ آدمی ہے، ذرا ہوشیدر رہنا چاہئے، جب وہ شخص مجلس میں آکر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق زم انداز میں گفتگو فرمائی، اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص برآ آدمی ہے، لیکن جب وہ

آدمی آپ کے پاس آگر بیٹھ گیا تو آپ اس کے ساتھ بہت نزدیک اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دکھو، وہ بدترین شخص ہے جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدمی میں طبیعت کے لحاظ سے نساد ہے، اگر اس کے ساتھ نزدیک اکام عاملہ نہ کیا جائے تو قدرہ فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لئے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نزدیک اکام عاملہ کیا۔

(تفہی، کتب البر والصلة، باب ماجاه فی الدارۃ، حدیث نمبر ۱۹۹۶)

علاءو کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یہ برآ آدمی ہے، ہاظہر تو یہ غیبت ہے، اس لئے کہ اس کے پیشے پہچپے اس کی برالیٰ کی جا رہی ہے، لیکن یہ غیبت اس لئے جائز ہوئی کہ اس کے ذریعہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو متذمہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکل نہ ہو جائیں۔ لہذا کسی شخص کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لئے اس کے پیشے پہچپے اس کی برالیٰ بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔

اگر دوسرے کی جان کا خطرہ ہو

بلکہ بعض صورتوں میں اس کی برالیٰ بیان کرنا واجب ہے، مثلاً ایک آدمی کو آپ نے دکھا کہ وہ دوسرے ہمیٹ کرنے لور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسی صورت میں اس دوسرے شخص کو بتانا واجب ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے تاکہ وہ لہا تحفظ کر سکے، لہذا ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔

علامیہ گناہ کرنے والے کی غیبت

ایک حدیث ہے، جس کا صحیح مطلب لوگ نہیں سمجھتے، لہذا یہ کہ ایک حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”لاغیۃ ل manus ولام مجاهر“

(جامع الاصول ج ۸ ص ۲۵۰)

یہ کہ "فاسق کی غیبت غیبت نہیں" اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اگر کسی گنہ کبیرہ کے اندر جلا ہے تو اس کی جو چاہو، غیبت کرتے رہو، وہ جائز ہے یا جو پد عات میں جلا ہے، تو اس کی غیبت جائز ہے۔ ملائکہ اس قول کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علایہ فتن و فجور کے اندر جلا ہے ملائکہ شخص علی اعلانِ حکم کھلا شراب پیتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے پیشے پہچپے یہ کے کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں، اس لئے کہ وہ تو خود اعلان کر رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اب اگر اس کے پیشے اس کے شراب پینے کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس کو ناگواری نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو خود علایہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، لذای غیبت میں داخل نہ ہو گا۔

یہ بھی غیبت میں داخل ہے

لیکن جو کام وہ دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اگر اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ غیبت میں داخل ہو گا۔ مثلاً وہ شخص حکم کھلا شراب تو پیتا ہے، حکم کھلا سو دو تو کھاتا ہے۔ لیکن کوئی گنہ ایسا ہے جو وہ چھپ کر کرتا ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور وہ گنہ ایسا ہے کہ اس کا نصلان دوسرے کو نہیں بخیج سکتا اب اس کی غیبت کرنا اور اس گنہ کا تذکرہ کرنا جائز نہیں، لذای جس فتن و فجور کا مرکاب وہ حکم کھلا کر رہا ہو۔ اس کا تذکرہ غیبت میں داخل نہیں ورنہ غیبت میں داخل ہے۔ یہ مطلب ہے اس قول کا کہ "فاسق کی غیبت غیبت نہیں"۔

فاسق و فاجر کی غیبت جائز نہیں

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، اسی مجلس میں کسی شخص نے جبلج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دیں تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ٹو کالو فرمایا کہ "دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر جبلج بن یوسف کی گردن پر سیکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس

کی غیبت حلال ہو گئی، حالانکہ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ جمل مجنون بن یوسف سے ان سیکھوں انسانوں کے خون کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں تو وہاں اس غیبت کا بھی حساب لیں گے جو تم اس کے پیچھے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ححفوظ رکھے۔
آمين

لہذا یہ مت سمجھو کہ فلاں شخص فاسق و فاجر اور بدعتی ہے، اس کی جتنی چاہو
غیبت کرو، بلکہ اس کی غیبت کرنے سے احتراز کرنا واجب ہے۔

ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں

ایک اور موقع پر بھی غیبت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ غیبت نہیں اس میں گنہ نہیں۔ چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہو اس ظلم کا تذکر کر سکتا ہو۔ چاہے تذکر کر سکتا ہو۔ مثلاً ایک شخص نے تمدیدی چوری کر لی، اب جا کر تھانے میں اطلاع دو کہ فلاں شخص نے چوری کر لی ہے تو اب اگرچہ یہ اس کے پیشہ پیچھے اس کا تذکرہ ہے، لیکن غیبت میں داخل نہیں، اس لئے کہ تمہیں تقضیٰ پہنچایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیا اور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جا کر شکایت کی۔ وہ تمدیدے ظلم کا تذکر کر سکتے ہیں تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔

لیکن اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے شخص کے سامنے کیا جا رہا ہے جو اس ظلم کا تذکر نہیں کر سکتا مثلاً چوری کے واقعے کے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلاں شخص نے چوری کر لی، یا فلاں شخص نے ہمیں یہ تقضیٰ پہنچا دیا، یا فلاں شخص نے ہم دے ساتھ یہ زیادتی کر دی تو یہ بیان کرنے میں کوئی گنہ نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں۔

دیکھئے: شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا دکھزارو کر اپنے دل کی تسلی کر سکتا ہے۔ چاہے دوسرا شخص اس کا تذکر کر سکتا ہو، یا نہ کر سکتا ہو، اس لئے شریعت

نے اجازت دیدی کہ اس کی اجازت ہے۔

لَا يَحِبُّ أَشْهُدُ الْجُفْرَ بِالشَّوَّهِ مِنْ الْقَتْلِ إِذْمَنْ خَلِيلَهُ

(سورة نہاد: ۱۲۸)

ویسے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ برائی کا ذکر کیا جائے البتہ جس شخص پر ظلم ہوا وہ لپا ظلم دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں، بلکہ جائز ہے۔ بہر حال، یہ مستثنیات ہیں جنہیں غیبت سے اللہ تعالیٰ نے نکل دیا ہے اس میں غیبت کا گناہ نہیں لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھ کر قصہ گولی کے طور پر، وقت گزرا ری کے طور پر مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، یہ سب غیبت کے اندر داخل ہے۔ خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سردب کرنے کی کوشش کریں۔ لورڈ رائس زبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تھوڑا سا لگام لائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آئیں۔

غیبت سے بچنے کے لئے عزم اور ہمت

غیبت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کہنے شروع سے بات نہیں بنتی، جب تک عزم لورڈ ارادہ نہ کیا جائے ہمت نہ کی جائے اور قدم آگئے نہ پوچھایا جائے، یہ عزم کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلر نہیں لکھے گا انشاء اللہ، اور اگر کبھی خلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اور صحیح علاج اس کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، اس سے معلانی مانگ لو کہ میں نہ تمدیدی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، بعض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔

غیبت سے بچنے کا علاج

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا غیبت کی تھی؟ تاکہ مجھے پہلے تو چلے کہ میرے بچھے کیا کہا جاتا ہے۔

کہتی ہے مجھے خلق خدا غائب نہ کیا؟

اگر ہنادو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکمت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بدرے میں کمی ہو وہ درست ہو، اور واقعی میرے اندر وہ غلطی موجود ہو، اور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آجائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پچھنے کی حقیقت دے دیں گے، اس لئے میں پوچھ لیتا ہوں۔

لہذا اگر غیبت کبھی مرزا د ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، اس وقت دل پر بہت آرے تو چلیں گے، اپنی زبان سے یہ کہنا تو پیدا مشکل کام ہے، لیکن علاج بھی ہے دو چار مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا تو انشاء اللہ آئندہ کے لئے سبق ہو جائے گا یہ رکوں نے اس سے پچھنے کے دوسرے علاج بھی ذکر فرمائے ہیں مثلاً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کا ذکرہ زبان پر آئے گے تو اس وقت فوراً اپنے حیوب کا استحضار کر، وکوئی انسن ایسا نہیں ہے جو عیب سے خلل ہو، اور یہ خیال لاو کہ خود میرے اندر تو فلان برلنی ہے، میں دوسروں کی کیا برلنی بیان کروں، اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان بھی ہوا کہ ایک کلمہ اگر زبان سے نکل دوں گا، لیکن اس کا انجمام کتنا بر اے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ! اس بلا سے نجات عطا فرمادیجھے۔ جب کبھی مجلس میں کوئی ذکرہ آئے گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ ذکرہ مجلس میں آ رہا ہے۔ مجھے بچا لیجھے، میں کہیں اس کے اندر جتلانہ ہو جاؤں۔

غیبت کا کفرہ

ابتدئ بعض روایات میں ہے، جو اگرچہ ہیں توضیف، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس غیبت کا کفرہ یہ ہے کہ اس کے لئے خوب دعائیں کرو، استغفار کرو، مثلاً فرض کریں کہ آج کسی کو غفلت سے تمہیرہ ہوئی کہ واقعہ آج تک ہم بڑی سخت غلطی کے اندر بٹلار ہے۔ معلوم نہیں کہ کن لوگوں کی غیبت کی۔ اب آئندہ انشاء اللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ لیکن اب تک جن کی غیبت کی ہے، ان کو کمل کمل تک یاد کریں اور ان سے کیسے معلق مانگیں؟ کمل کمل جائیں؟ اس لئے اب ان کے لئے دعا اور استغفار کر لو،

(مشکوٰۃ، کتاب الاداب باب حفظ النسان، حدیث نمبر ۳۸۷)

حقوق کی تلافی کی صورت

حضرت حکیم لامست مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تو یہ کیا تھا کہ لیکھ خط لکھ کر سب کو بھجوادیا، اس خط میں یہ لکھا کہ زندگی میں معلوم نہیں آپ کے کتنے حقوق تکف ہوئے ہوں گے، کتنی غلطیں ہوئی ہوں گی، میں ا جمل طور پر آپ سے معلق مانگتا ہوں کہ اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیجئے، یہ خط اپنے تمام اہل تعلقات کو بھجوادیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ان حقوق کو معاف کر دیں گے۔

لیکن پالفرض ایسے لوگوں کے حقوق تکف کئے ہیں جن سے اب رجوع کرنا ممکن نہیں، یا تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہنچے گئے ہیں کہ ان کا پڑھ معلوم کرنا ممکن نہیں تو ایسی صورت کے لئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی خوبیت کی گئی تھی یا جن کے حقوق تکف کئے تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو خوبیت کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی درجات بنا دیجئے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عطا فرمائے لوازم کے حق میں خوب استغفار کرو تو یہ بھی اس کی تلافی کی ایک شکل ہے۔

اگر ہم بھی اپنے اہل تعلقات کو اس قسم کا خط لکھ کر بھیج دیں تو کیا اس سے ہمدی ہٹنی ہو جائے گی؟ یا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعد ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہمدی معلق کا سلمان کر دیں۔

معاف کرنے کرانے کی فضیلت

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے معلق مانگے اور پچھے دل سے مانگے اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ سے معلق لیکر رہا ہے نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو اس دن معاف کرے گا جس دن اس کو معلق کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک شخص نادم ہو کر معلق لیکر رہا ہے لیکن یہ شخص معلق دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس دن معاف نہیں کروں گا جسی دن

اس کو معلن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا تو
تجھے کیسے معاف کیا جائے۔

- اس لئے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے نمائت کے ساتھ
دوسرے سے معلن مانگ لی تو اس نے اپنا فریضہ او اکر لیا اس سے عمدہ برآ ہو گیا، چلے ہے
دوسرے شخص معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لئے حقوق کی معلن مانگ کر ہر وقت تیار رہنا
ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلن مانگنا

ارے ہم اور آپ کس شمار و قتلہ میں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی
ہو، یا میں نے کسی کی جانی ملی کسی بھی اعتبد سے حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے
کھڑا ہوں، اگر بد لہ لینا چاہتے ہو تو بد لے لو، اور اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف
کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہرا کوئی حق میرے اور پالی نہ رہے۔

بٹائے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن اعظم اور پیشوائے اعظم جن کے
ایک سانس کے بد لے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، وہ فرمادی ہے
یہ کہ اگر میں نے کسی کو بد لہ ہوا یا تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بد لے لے، چنانچہ
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ! آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر ملا تھا،
میں اس کا بد لہ لینا چاہتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا انہد نہیں
فرمایا، بلکہ فرمایا کہ: آ جاؤ، اور بد لہ لے لو، کمر پر مل لو، جب وہ صحابی کر کے پیچے آگئے تو
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مجھے ملا تھا، اس وقت
میری کمر پہنچی تھی، اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں میں بد لہ لوں گا
تو بد لہ پورا نہیں ہو گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوزھے ہوئے تھے، آپ
نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا رہتا ہوں، چنانچہ جس وقت آپ نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے
آگے بڑھ کر اس سر نبوت کو چوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا کہ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ گستاخی میں نے صرف اس لئے کی تاکہ مجھے اس مر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمادیں۔

(مجمع الزوائد، باب فی دوامِ صلی اللہ علیہ وسلم ج ۹ ص ۲۷)

بہر حال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شکار و قطار میں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے لہل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج دیں تو اس سے ہمارا کیا گذر جائے گا، شاید اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیں، اور ابتلاء سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پار فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

اسلام کا ایک اصول

ویکھئے: اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لئے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لئے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ اور جو اپنے ناپسند ہو وہ دوسرے کے لئے بھی ناپسند کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح پیشہ یہ کرے سے تمہارا ذکر کرے تو اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تم اس کو اچھا سمجھو گے یا برا سمجھو گے؟ اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو، اور اپنے لئے اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپنے بھائی کے لئے پسند کرو؟ یہ دوسرے معید وضع کرنا کہ اپنے لئے کچھ اور پیانہ ہے، اور دوسرے کے لئے کچھ اور پیانہ ہے۔ اسی کا نام منافقت ہے۔ گویا کہ فیبیت کے اندر منافقت بھی داخل ہے، جب ان باتوں کو سوچو گے اور اس گنكہ پر جو عذاب دیا جائے گا اس کو سوچو گے تو انشاء اللہ غیبت کرنے کے جذبے میں کمی آئے گی۔

غیبت سے بچنے کا آسان راستہ

ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو

یہاں تک فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا اصل راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کرو یہ نہیں، نہ اچھائی سے ذکر کرو، اور نہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان یہاں خبیث ہے، اس لئے کہ جب تم کسی کا ذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلاں شخص یہاں اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے تو دلخ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا، بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن پھر یہ ہو گا کہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ذل دے گا جس سے وہ اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی مثلاً وہ کہ فلاں شخص ہے تو یہاں اچھا آدمی، مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ "مگر" آکر سدا کام خراب کر دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مفتگو کارخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس لئے حضرت علیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو یہ نہیں، اس لئے کہ دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہ اچھائی سے کرو، اور نہ برائی سے کرو، لور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے بیٹھو، ماکہ شیطان مخلط راستے پر نہ ڈالے۔

اپنی برائیوں پر نظر کرو

لوے بھائی دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو، اپنی طرف نکلے کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا۔ اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانتے، اور اس کا اللہ جانتے، تمہیں تو تمہارے اعمل کا صلد ملتا ہے، اس کی نکر کرو:

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نیزہ تو

اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیل انسان کو اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہوتا ہے اس وقت کبھی دوسرے کی برائی کی طرف خیل نہیں جاتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے یہ دعہ شعر کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:

تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر
رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیوب و ہنر
پڑی اپنی برائی پر جو نظر
تو نکد میں کوئی برا نہ رہا

اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے عیوب کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا
دے۔ آمین۔ یہ سدا فدا اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی طرف دھیان نہیں ہے، یہ
خیل نہیں ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جا کر سوتا ہے، اس کا خیل نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے
ساتھ جواب رہتا ہے، مگر کبھی اس کی برائی ہو رہی ہے، کبھی اس کی برائی ہے، اس کے
اندر فلاں عیوب ہے۔ اس کے اندر فلاں عیوب ہے، بس دن رات اس کے اندر پہنچنے
ہوتے ہیں۔ خدا کے لئے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

گفتگو کا رخ بدلتے دو

جن حالات میں جس معاشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے اندر یہ کام
ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس سے پچتا نہیں کے اختیاد سے باہر ہوتا
تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے، اس لئے اس سے پچتا نہیں کے اختیاد میں ہے، جب
کبھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہو تو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر کبھی غیبت
کے اندر جلا ہو جاؤ تو فوراً استغفار کرو، اور آئندہ پہنچنے کے لئے دوبارہ عزم کو تابہ
کرو۔

”غیبت“ تمام خرایوں کی جڑ

یاد رکھو، یہ غیبت اسی چیز ہے جو فساد پیدا کرنے والی ہے، جگہے اس کے
ذریعہ پیدا ہوتے ہیں، باہمی ناقابلیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے میں اس وقت
جو بکار نظر آ رہا ہے، اس میں بست بڑا دخل اس غیبت کا ہے، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو
— العیاز باللہ تو — جو شخص ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بست بری نکد
سے دیکھے گا، اور اس کو برائی بھی گا، اور یہ سوچے گا کہ یہ شخص بری لٹ کے اندر جلا ہے،

اور جو شخص بنتا ہو، وہ خود یہ سوچے گا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ میں ایک بڑے گناہ کے اندر بنتا ہوں۔ لیکن ایک شخص غیبت کر رہا ہے تو اس کے پڑے میں اتنی برائی کا احساس دل میں پیدا نہیں ہو گا، اور نہ خود غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے گناہ کے اندر بنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی دلوں میں پیشی ہوئی نہیں، اور اس کی حقیقت کا پورے طریقے سے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ دونوں گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کو برائی سمجھ رہے ہیں، تو اس کو بھی برائی سمجھنا چاہئے، اس لئے اس کی برائی دلوں میں پیدا کرو کہ یہ کتنی خطرناک یہاری ہے۔

اشدہ کے ذریعہ غیبت کرنا

ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں۔ پاتوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آگیا، اب بینا نہ بشری سو کنوں کے اندر آپس میں ذرا سی چھٹک ہوا کرتی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قدم ذرا چھوٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشدہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی لمحکنی ہیں۔ زبان سے یہ نہیں کہا کہ وہ لمحکنی ہیں۔ بلکہ صرف ہاتھ سے اشدہ کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے عائشہ! آج تم نے ایک ایسا عمل کیا کہ اگر اس عمل کی بو اور اس کا ذہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بدبو دار مور زہر لایا ہتا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے معمولی اشدہ کی کتنی شاععت بیان فرمائی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص مجھے سدی دنیا کی دولت لا کر دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اندھے کو تیار نہیں، جس میں دوسرے کا استہزا ہو جس میں اس کی برائی کا پسلو لکھا ہو۔

(تذکرہ، الیوب صفة القیامة، حدیث نمبر ۲۱۲۳)

غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں

اب تو نقل اتارنا فنونِ لطیفہ کے اندر داخل ہے، لور وہ شخص تعریف و توصیف

کے کلمات کا ستحق ہوتا ہے۔ جس کو دوسرے کی نقل اندانے کافن آتا ہو، حلاںکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہیں کہ کوئی شخص سدی دنیا کی دولت بھی لا کر دے دے تب بھی میں نقل اندانے کو تید نہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے ان باتوں سے روکا ہے۔ مگر ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ ہم شراب پینے کو برائی بھیں گے، زنا کاری کو برائی بھیں گے، لیکن غیبت کو برائی نہیں سمجھتے، اس کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خلی نہیں خدا کے لئے اس سے پچنے کا اہتمام کریں۔

غیبت سے پچنے کا طریقہ

اس سے پچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برائی ذہن نہیں کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ! یہ غیبت بہاسکریں گناہ ہے، میں اس سے پچنا چاہتا ہوں لیکن جلوسوں میں دوست احباب اور عزیز و اقدب سے باشیں کرتے ہوئے غیبت کی باشیں بھی ہو جلتی ہیں، اے اللہ! میں اپنی طرف سے اس بات کا عزم کر رہا ہوں کہ آئندہ غیبت نہیں کروں گا۔ لیکن اس عزم پر قائم اور علیت رہنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اے، اللہ! اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرماء، اے اللہ! مجھے ہمت عطا فرماء، حوصلہ عطا فرمادیجھے عزم کر کے یہ دعا کر لیں۔ یہ کام آج ہی کر لیں۔

غیبت سے پچنے کا عزم کریں

دیکھو جب تک انسان کسی کام کا عزم اور لراوہ نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف شیطان ہر اچھے کام کو مٹا تا رہتا ہے۔ اچھا یہ کام کل سے شروع کریں گے، جب کل آئی تو کوئی عذر پیش آگیا، اب کماکہ اچھا کل سے شروع کریں گے، اور وہ کل پھر آتی ہی نہیں، جو کام کرنا ہو وہ ابھی کر لو، اس لئے کہ جس کام کو مٹا دیا، وہ مٹل گیا۔

دیکھئے! اگر کسی کو روز گارنے مل رہا ہو تو وہ روز گار کے لئے بے چین ہو گا یا

نہیں؟ کسی پر اگر قرضہ ہو تو وہ قرضہ ادا کرنے کے لئے بے چین ہو گا یا نہیں؟ اگر کوئی یہ دیکھے تو وہ شفاقت حاصل کرنے تک بے چین ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی بے چینی کیوں نہیں کہ ہم سے یہ بری عادت نہیں چھوٹ رہی ہے؟ بے چینی پیدا کر کے دور کعت صلاۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں اس براللّی سے پچھا چلتا ہوں۔ اپنی رحمت سے اس براللّی سے بچا جائیجئے، اور ہمیں استقامت عطا فرمادیجئے، دعا کرنے کے بعد اس بات کا عزم کر کے اپنے لوپر پابندی عائد کریں۔

حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلے تو اپنے اوپر جرم نہ مقرر کرلو، مثلاً یہ عزم کریں کہ جب بھی غائب ہوگی تو دور کعت نفل پڑھوں گا، یا اتنی رقم صدقہ کروں گا، اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء اللہ اس سے نجات ہو جائے گی، اور اس بیداری سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کی بے چینی ایسی ہی پیدا کرنی ہے جیسے بیداری آدمی علاج کرانے کے لئے بے چین ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بھی ایک بیداری ہے۔ اور خطرناک ترین بیداری ہے، اور جسمانی بیداری سے زیادہ خطرناک ہے، اس لئے کہ یہ بیداری جسم کی طرف لے جدھی ہے۔ لہذا خود بھی اس سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اس لئے کہ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا بہت زیادہ عام ہے جمل چڈ عورتیں بیٹھیں، بس کسی نہ کسی کا ذکر شروع ہو گیا، اور اس میں غیرتیں شروع ہو گئیں، اگر خواتین اس پر عمل کر لیں، اور اس گناہ سے نفع جائیں تو گمراہوں کی اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمين۔

”وَچْنَلِي“ ایک سُنگین گناہ

ایک اور گناہ جو غیبت سے مبتلا جاتا ہے، اور اتنا ہی سُنگین ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ سُنگین ہے۔ وہ ہے ”چنلی“ عربی زبان میں اس کو ”نمیتہ“ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ”نمیتہ“ کا ترجمہ چنلی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ”نمیتہ“ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے، ماکہ سخنے والا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور یہ شخص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو یہ تکلیف پہنچی، یہ ہے نمیتہ کی تعریف، اور اس میں ضروری نہیں کہ جو برائی اس

نے بیان کی ہو، وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو چاہے وہ برلنی اس کے اندر موجود ہو، یا نہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ ”نمیمۃ“ ہے۔

”چغلی“ غیبتو سے بدتر ہے

قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تذمیر بدلنی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ غیبتو سے بھی زیادہ شدید اس وجہ سے ہے کہ غیبتو میں نیت کا برداہونا ضروری نہیں کہ جس کی میں غیبتو کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پہنچے، لیکن نمیمۃ میں بدنتی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے یہ نمیمۃ دو گناہوں کا جمود ہے، ایک تو اس میں غیبتو ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لئے اس میں ڈبل گناہ ہے، اور اس لئے قرآن و حدیث میں اس پر بڑی سخت دعیدیں آئیں ہیں، چنانچہ فرمایا کہ

”هَمَّا زَادَ مُشَاهِدٌ مُّنْمَيْهٌ“

(حدیۃ القلم: ۱۱)

کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح چلتے ہیں جو دوسروں کے لئے طعنہ رہتا ہے، اور چخلیں لگاتا پہرتا ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّالٌ“

(بخاری، کتاب الادب، باب ما یکرہ من النمیة)

”قَتَّالٌ“ یعنی چھل خور جنہ میں داخل نہیں ہوگا، ”قَتَّالٌ“ بھی چھل خور کو

کہتے ہیں۔

عذاب قبر کے دو سبب

اور ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک مرجبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کے ساتھ تشریف لے جدھے تھے، راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی

ہوئی ہیں۔ جب آپ ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کی طرف اشده کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ:

انہما لیعذبان

ان دونوں قبروں الٰوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر مسکن فرمادیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپلی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے، اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے، اس لئے یہ اس کی رحمت ہے کہ انسوں نے اس کو چھپلایا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اسکو ظاہر بھی فرمادیتے ہیں بہر حال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکن فرمادیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا

ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لئے کچھ مشکل نہیں تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشتاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلاً ایسی جگہ پر پیشتاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آتیں۔ خاص طور پر اس زمانے میں لوٹ بکریاں چڑائے کا بست رواج تھا۔ اور ہر وقت ان جاتوروں کے ساتھ رہتا ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے اکثر ان کی چھینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط لانا کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔

(مندرجہ ص ۴۹)

پیشتاب کی چھینٹوں سے بچنے

یہ بڑی فکر کی بات ہے، الحمد للہ ہمارے یہاں اسلام میں طہرت کے آداب تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ کس طرح طہرت کرنی چاہئے، لیکن آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی سترہائی کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن طہرت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیکن نہیں۔ بیت الحکماء ایسے طریقوں سے بھائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینٹوں

سے احتیاط نہیں ہوتی۔

اور ایک حدیث میں حضور نجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”امتنع عن البول، فان عامنة عذاب القبر فیه“

(سن دارقطنی ج ۱ ص ۱۲۸)

یعنی پیشاب سے بچو، اس لئے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں کا جسم پر لگ جانا کپڑوں پر لگ جانے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

”چغلی“ سے بچئے

اور دوسرے صاحب کو اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا اس لئے یہ چغلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اس میں بدنتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کرتا ہے، تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچانے۔

راز فاش کرنا چغلی ہے

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے کہ دوسروں کا کوئی راز فاش کر دیا بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری یہ بات دوسروں پر ظاہر ہو، وہ پات لہی ہو، یا بڑی ہو، اس سے بحث نہیں، مثلاً ایک مددار آدمی ہے، اور وہ اپنی دولت دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اب آپ نے کسی طرح سن گن لگا کر پڑھ لگایا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ اب آپ ہر شخص سے کہتے پھر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ جو اس کا راز آپ نے انشاء کر دیا۔ یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔

یا مثلاً ایک شخص اپنے گمر بلوں مخللات کے اندر کوئی پلان یا منصوبہ بنار کھا ہے۔

آپ نے کسی طرح پڑھ لگا کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ چغلی ہے۔

اسی طرح کسی کا کسی قسم کاراز ہو، اس کی اجابت کے بغیر دوسروں پر افشا کرنا چغلی کے اندر داخل ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی مسیح علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

المحالس بالامانة

(ابوداؤد، کتب الادب، باب فی تقلیل الحدیث، نمبر ۳۸۲۹)

محلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے۔ وہ بھی امانت ہے۔ مثلاً کسی شخص نے آپ کو حرم را ز سمجھ کر رازدار سمجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات کی۔ اب وہ بات جاگر آپ دوسروں سے تقلیل کر رہے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔

زبان کے دو اہم گناہ

بہر حال زبان کے گناہوں میں سے آج دو اہم گناہوں کا بیان کرنا مقصود تھا۔ یہ دونوں گناہ بڑے عظیم اور سختین ہیں۔ ان کی تحقیق آپ نے احادیث کے اندر سینے لیکن جتنے یہ سختین ہیں آج ان کی طرف سے اتنی ہی بے پرواہی اور غفلت ہے۔ مجلسیں ان سے بھری ہوئی ہیں گمراہ سے بھرے ہیں زبان قیچی کی طرح چل رہی ہے۔ رکنے کا ہم نہیں لیتی۔ خدا کے لئے اس کو لگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق اس کو چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گمراہ کے گمراہ بنا ہو رہے ہیں۔ آپس میں تاچاقیں ہو رہی ہیں۔ فتنے ہیں عدویں ہیں۔ دشمنیں ہیں۔ خدا جانے کتنے گناہوں نور قلنون کا ذریعہ ہے، لور آخرت میں تو اس کی وجہ سے جو عذاب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نعم اور رحمت سے اس کی شناخت اور قباحت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

وَإِنْهُ دَكْهُواً نَا أَنِّيَ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ مَرْبُوتُ الْعَكَالَيْنِ

سونے کے آداب

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی شاہ قلیم



مطبوع و تحریک
معربہ اندیشہ

میمن انعامک پبلیشورز

۱۰۰/- ریالات کابلی / ریال

تاریخ خطاب : ۲۳ ستمبر ۱۹۹۳ء
 مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
 گلشنِ اقبال کراچی
 وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب
 اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳
 صفات :

یہ آداب و مستحبات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ اگرچہ فرض واجب تو نہیں، لیکن ان کے اناوار و برکات بے شمار ہیں۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، اس لئے ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ ان آداب کو اختیار کرے۔ یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرمادیا کہ اگر اختیار نہیں کرو گئے تو گناہ نہیں دیں گے، ورنہ یہ آداب کرانا مقصود ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سونے کے آداب

الحمد لله رب العالمين ونشكره ونستغفره ونؤمِن به ونتوكل عليه ونفعوذ
بأله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادى له وأشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدان
سيدينا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله رسوله أما بعد

سوتے وقت کی طویل دعا

"عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَ إِلَى فَرَاسَةٍ نَامَ
عَلَى شَقَّةِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْأَمِنْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ.
وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَرَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَاهَ
ظَهَرَى إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مُلْجَأٌ لِمَنْ جَاءَ مِنْكَ
إِلَّا إِلَيْكَ، أَمْتَ بِكَتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِتَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ"
(صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب ما يقل لذاهم)

اس حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہ جب بستر پر جلو تو کس طرح لیشو، کس طرح سو، حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور رحمتیں اس امت کے لئے دیکھیں کہ ایک ایک چیز کا طریقہ ہمارے ہیں۔ جس طرح میں باپ اپنے بچے کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں انہی سکھائی سے روایت ہے کہ:

قال قال لى سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت
مضجعك فتوضنا وضوتك للصلوة، ثم ااضطجع علـ
شقـل الـایمن وـقـل "وـذـکـرـخـروـ"۔

(حوالہ سابقہ)

سوتے وقت وضو کر لیں

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لگو تو وساہی وضو کر لو جیسا کہ نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آدمی وضو کر کے سوئے۔ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر سو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لئے کہ سونے کے واسطے وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ادب یہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کرو۔

یہ آداب محبت کا حق ہیں

یہ آداب اور مستحبات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ یہ اگرچہ فرض واجب تو نہیں، لیکن ان کے اوار و برکات بے شمار ہیں۔ ہمارے حضرت ذاکر عبد العزیز صاحب قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ فرائض وواجبات اللہ جل جلالہ کی عظمت کا حق ہیں، اور یہ آداب و مستحبات اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، جو آداب آپ نے

تلقین فرمائے ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ ملن آواب کو اختیاد کرے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو اختیاد نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں دیگئے، ورنہ یہ آواب و مستحبات ادا کرنا مقصود ہے۔ لیک موسن بندہ وہ تمام آواب و مستحبات بحالائے جو حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اس لئے حتی الامکان ان کو اختیاد کرنا چاہئے۔

دائری کروٹ پر لیٹیش

بمرحل، سونے سے پہلے وضو کرنا ادب ہے، اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکمت کی انتہا کو کون پہنچ سکتا ہے۔ خدا معلوم اس حکم میں کیا کیا انوار و برکات پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتاویا کہ وائیں کروٹ پر لیٹو، یہ بھی آдоб میں ہے کہ انسان جب سونے کے لئے بستر پر لیٹئے تو ابتداء وائیں کروٹ پر لیٹئے، بعد میں اگر ضرورت ہو تو کروٹ بدال دے، وہ ادب کے خلاف نہیں ہے اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور یہ دعا پڑھو:

اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك ، و
فوضت امري اليك ، والجلات ظهرت اليك ، رغبة ورهبة
اليك ، لا مدوا و لا منجا منك الا اليك ، آمنت بكل ما يكتب لك الذي
أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت

دن کے معاملات اللہ کے سپرد کر دو

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دعائیں ایسے عجیب و غریب الفاظ لائے ہیں کہ آدمی ان الفاظ پر قریان ہو جائے، فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے تابع بنایا، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اور میں نے لپھارخ آپ کی طرف کر دیا، اور اے اللہ، میں نے اپنے سلے معاملات آپ کو سونپ دیئے،

مطلوب یہ ہے کہ سدا دن تو دوزدھوپ میں لگا رہا۔ کبھی رزق کی تلاش میں۔ کبھی نوکری کی تلاش میں۔ کبھی تجدیت میں۔ کبھی صنعت میں۔ اور کبھی کسی اور دھندے میں لگا رہا، یہاں تک کہ دن شتم ہو گیا۔ سدی کارروائیں کر کے گھر پہنچ گیا، اور اب سونے کے لئے لیٹنے لگا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹتا ہے۔ تو جو کچھ دن میں حالات گزرے ہیں۔ اس کے خیالات دل پر چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ فکر اور تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہو گا؟ جو کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا کیا بننے گا؟ دکان چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہیں رات کو چوری نہ ہو جائے۔ یہ سب اندیشے اور تشویشات رات کو سوتے وقت انسان کو ہوتے ہیں، اور یہ اندیشے دل کو ستاتے ہیں، اس لئے دعا کر لو کہ یا اللہ دن میں تو جو کام مجھ سے ہو سکے، میں کرتا رہا، اب تو یہ سلے محلات میں نے آپ کے پروردگردیے ہیں۔ دن میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ہی کی طرف رجوع کروں، اور آپ ہی سے مانگوں، کہ یا اللہ، جو محلات میں نے کئے ہیں۔ ان کو انجام تک پہنچا دیجئے،

سکون و راحت کا ذریعہ "تفویض" ہے

یہی "تفویض" ہے، اور اسی کام توکل ہے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا وہ کر لیا، اپنے بس میں جتنا تھا وہ کر گزرے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ۔ اب آپ کے حوالے ہے، اس دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اب تم سونے کے لئے جا رہے ہو۔ تو ان خیالات اور پریشانیوں کو دل سے نکل دو، اور اللہ کے حوالے کر دو۔

۔ پر دم بتو ملی خوش را ۔

۔ تو دلی حلب کم و بیش را ۔

پروردگی اور "تفویض" کے لطف اور اس کے کیف اور مرے کا اندازہ انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک یہ پروردگی اور تفویض کی جملت لور کیفیت انسان پر گزرتی نہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور

توکل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، بس انسان پناہ سدا معللہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، ہر کام کے لئے دوزدھوپ کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد سے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اور کافر میں بھی فرق ہے کہ ایک کافر ایک کام کے لئے دوزدھوپ کرتا ہے۔ مخت کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہے۔ جدو جمد کرتا ہے اور پھر سدا بھروسہ اسی کوشش پر کرتا ہے۔ جس کا تجھ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت تشویشات اور اندیشوں میں جتکارہتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ "توکل" اور "تفویض" کی فتح عطا فرماتے ہیں۔ وہ اللہ میں سے کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے بس میں اتنا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگے آپ کے حوالے ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے۔ اس پر میں راضی ہوں۔ یاد رکھو، جب انسان کے اندر یہ "تفویض" کی صفت پیدا ہو جلتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو ناقابل برداشت پریشان نہیں آتی۔ برعکس، سوتے وقت یہ دعا کرو کہ یا اللہ، میں نے تمام معللات آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کر دیئے۔

پناہ کی جگہ ایک ہی ہے
آگے فرمایا:

"والجلات ظھری الایک، رغبۃ و رہبۃ الایک، لاملاجا ولا

منجامنک الا الایک"

لوڑ میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، یعنی میں نے آپ کی پنڈتی، آپ کی پناہ میں آگیا، اور اب سدی دنیا کے وسائل اور اسباب سب منقطع کر لئے۔ اب سوائے آپ کی پناہ کے میرا کوئی سدا نہیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معللہ فرمائیں گے، لیکن ساتھ میں خوف بھی ہے۔ یعنی اپنی بد اہمیتیوں کا ذر بھی ہے کہ اگر بیانات ہو کہ کسی بات پر گرفت ہو چائے، اس حالت میں لیٹ رہا ہوں۔ اتنے لیا بھیب جملہ فرمایا۔ "لاملاجا ولا منجامنک الا الایک" کہ آپ سے نجع کر جائے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نہیں ہے کہ خدات کرے۔ اگر آپ کا کوئی قبر آجائے۔ یا آپ کا عذاب آجائے تو ہم نجع کر کہاں جائیں، اس لئے کہ کوئی اور پناہ کی جگہ ہے نہیں، پھر لوٹ کر

آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اے "اللہ" اپنے غصب اور قبر سے بچا لیجئے۔

تیر چلانے والے کے پہلو میں بیٹھ جاؤ

ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ قصہ کرو کہ لیک زبردست قوت ہے، اور اس کے ہاتھ میں کمل ہے، اور یہ پورا آسمان اس کمل کی قوس ہے، اور زمین اس کی تمات ہے، اور حادث اور مصیبتیں اس کمل سے چلنے والے تیر ہیں، اب یہ دیکھو کہ ان حادث کے تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے ان سے بچیں؟ کہاں جائیں؟ پھر خود ہی ان بزرگ نے جواب دیا کہ ان تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اسی تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، ان تیروں سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی سفوم ہے ان الفاظ کا کہ:

"لامجا ولا منجا منك الا المياد"

ایک نادان بچے سے سبق لو

میرے ایک بڑے بھائی ہیں ان کا ایک پوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس پوتے کی مل اس پوتے کو کسی بات پر مدد نہیں ہیں، لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ مل جتنا ملتی جاری ہے۔ بچہ اسی مل کی گود میں چڑھتا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے بھاگے، وہ تو کور گود کے اندر گھس رہا ہے، اور مل سے پٹا جا رہا ہے۔ یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہ وہ بچہ جانتا ہے کہ اس مل کی پٹلی سے بچنے کا راستہ بھی اسی مل ہی کے پاس ہے، اور اسی مل ہی کے پاس جا کر قرار اور سکون ملے گا، اس مل کی گود کے علاوہ کوئی اور سکون اور قرار کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نادان بچے کو توانا فہم ہے، وہ جانتا ہے کہ کہیں اور قرار نہیں ملے گا۔

یہی فہم اور ادراک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میہمت اور تکلیف آئی ہے، تو پناہ بھی اسی کے پاس ہے، اسی سے مانگو کہ یا اللہ، اس میہمت اور تکلیف کو دور فرمادیجئے، آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں، اس نے آپ ہی سے آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے

سیدھے جنت میں جاؤ گے آگے فرمایا:-

”آمنت بِكَتَابِكَ الْذَّعْنَ اِنْزَلْتَ وَبَيْكَ الْمَذِى اَنْسَلْ“

یعنی میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے تازل کی، اور آپ کے نبی پر جو آپ نے بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات سونے سے پہلے کو، اور یہ کلمات تمدی آخری گنگلو ہو۔ اس کے بعد کوئی لور پلت نہ کرو، بلکہ سوچو۔

ہم لے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کر لیا کرو۔ ایک تو دن کے بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ بلکہ سدے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو۔ اور وضو کر لیا کرو۔ اور یہ خدا کو رہ بلا دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے ذریعہ ایمان کی بھی تجدید ہو گئی۔ اب اس کے بعد داعی کروٹ پر سوچو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سدی نیند عبادت بن گئی، اور اگر اس حالت میں رات کو سوتے سوتے سوت آگئی تو انشاء اللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو کوئی رکاوٹ نہ ہو گی۔

سوتے وقت کی مختصر دعا

”وَعَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخْذَ مَضْجُوعَةً مِنَ الْمَيِّلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدَّهُ ثُمَّ يَقُولُ : إِلَهِنِي بِأَسْعَكَ أَمْرَتْ وَاحِدَتْ وَإِذَا أَسْتَيقَظَ قَالَ : إِلَهِنِي هُوَ الْذَّعْنَ أَحْيِيَاهَا بَعْدَ مَا أَمْاتَنَا وَاللَّهُ أَكْبَرُ“

(صحیح مسلم، کتب الدعوات، باب ما يقال لذاہم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، تو انہا ہاتھ اپنے رخدا کے

یخچے رکھ لیتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے "اللَّهُمَّ بِسْكِ امْوَاتٍ وَاحْيَا" اے اللہ، میں آپ کے نام سے مرتا ہوں۔ آپ کے نام سے جیتا ہوں۔

نیند ایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں طویل دعا مقول تھی، اور اس حدیث میں مختصر دعا مقول ہے، بہرحال، سوتے وقت دونوں دعائیں ہر صناعتیت ہیں، لہذا کبھی ایک دعا پڑھ لی جائے، اور کبھی دوسری دعا پڑھ لی جائے، اور اگر دونوں دعائوں کو جمع کر لیا جائے تو اور بھی اچھا ہے، اور یہ دوسری دعا تو بست ہی مختصر ہے، اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے، اس مختصر دعا میں سوتے وقت حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ اس لئے کہ نیند میں انسان دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ مردہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس چھوٹی موت کے وقت اس بڑی موت کا احساس کیا جائے۔ اس کو یاد کیا جائے، یہ چھوٹی نیند تو مجھے روزانہ آتی ہے اور عام طور پر میں اس سے بیدار ہو جاتا ہوں لیکن ایک نیند آنے والی ہے۔ جس سے بیداری قیامت کے دن ہوگی، اس کا استحضار کیا جائے۔ اس کو یاد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں خدمائی کی جائے۔ کہ اے اللہ، میں آپ ہی کے نام پر مرتا ہوں۔ اور جیتا ہوں۔

بیدار ہونے کی دعا

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، "الحمد لله الذی احیا بعدهما تدا الیہ النشور" یعنی اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور بلا خراسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آج یہ موت آئی وہ چھوٹی موت تھی، اس سے بیداری ہو گئی۔ زندگی کی طرف واپسی ہو گئی، لیکن بلا خراسی کی نیند آنے والی ہے، جس کے بعد والپی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہو گئی، اس دنیا کی طرف نہیں ہو گئی۔

موت کو کثرت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضور نبی اللہ علیہ وسلم دو پانیں سکھا رہے ہیں۔ لیکن تعلق مع اللہ، اور رجوع الی اللہ، یعنی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قدم قدم پر اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسرے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے کہ جب روزانہ انسان سوتے وقت اور جا گئے وقت یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیال نہیں آئے گا۔ کب تک غفلت میں چلتا رہے گا۔ اس لئے یہ دعائیں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لئے بڑی اکسیر ہیں، حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اسْتَرْوا ذِكْرَهَا ذِهْرَ الْمَذَادِ الْمُوْتُ

(تفہی، صفتۃ القیلۃ، حدیث ثبر ۲۳۶۰)

یعنی اس چیز کا ذکر کثرت سے کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یعنی موت، اس لئے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخوبی پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں آگئی ہیں۔ وہ غفلت کی وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غفلت ہے، اگر یہ غفلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے کہ لیکن دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر قول اور فعل کو سوچ سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس لئے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا چاہئے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی میں یاد کرنا چاہئے۔

الثالثة اپنے سندیدہ نہیں

عَنْ يَعْيَشِ بْنِ طَحْنَةَ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَاتَلَ

قَالَ أَبُو بَيْنَمَا أَتَاهُ مَصْطِبَحَ فِي الْمَجْدِ عَلَى بَطْنِ أَذْانِ جَلَلٍ

يَحْرِكُ فِي بَرْجَلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا صِنْجَعَةً يَبْغِضُهَا اللَّهُ، هَذَا،

فتیلہ خادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی الرجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ، حدیث نمبر ۵۰۳۰)

حضرت یعیش بن طعفة غفلدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن مسجد میں پیٹ کے مل المائینا ہوا تھا۔ اچھک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ جب میں نے مذکروں کھاتوں کرنے والے شخص حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لیٹنے کو پسند نہیں فرمایا، یہاں تک کہ پاؤں سے حرکت دیکھ ان کو اس پر تجھیہ فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت پیٹ کے مل المائینا مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔

وہ مجلس باعث حسرت ہو گی

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَدِمَ مَقْدَدَ الْمَرْيَذَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَزُّقٌ، وَمَنْ اضطَجَعَ مَضْطَجِعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَزُّقٌ

(ابو داؤد، کتاب الادب، باب کراہیہ ان یقوم الرجال - حدیث نمبر ۳۸۵۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا ہو، اللہ کا کوئی ذکر اس مجلس میں نہ آیا ہو۔ نہ اللہ کا ہم نیا گیا ہو۔ تو آخرت میں وہ مجلس اس کے لئے حسرت کا باعث بنے گی۔ یعنی جب آخرت میں پہنچے گا، اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش، میں اس مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا۔ جس میں اللہ کا ہم نہیں لیا گیا، اس لئے فرمایا کہ مسلمان کی کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خلی نہ ہوئی چاہئے۔

ہمدری مجلسوں کا حال

اب ذرا ہم لوگ اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے حلات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمدری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں غفلت کی نظر ہو چلی ہیں، لورہن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا نام، یا اللہ کے دین کا کوئی تذکرہ ان میں نہیں ہوتا، سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسی تمام مجلسیں دبیں اور حضرت کا ذریعہ ہوئی۔ ہمارے یہاں مجلس آرائی کا سلسلہ چل پڑا ہے، اسی مجلس آرائی ہی کو مقصد بنا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور فضول ہاتھیں کرنے کے لئے باقاعدہ محفل بھل جاتی ہے، جس کا مقصد گپٹ شپ کرنا ہوتا ہے، یہ گپٹ شپ کی مجلس پاٹکل فضول اور بے کار اور بے مقصد، اور اوقات کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور جب مقصد صحیح نہیں ہوتا۔ بلکہ محض وقت گزاری مقصود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی مجلس میں اللہ چدک و تعالیٰ اور اللہ کے دین سے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مجلس میں کبھی کسی کی ثیبیت ہوگی، کبھی جھوٹ ہو گا۔ کبھی کسی کی دل آزادی ہوگی۔ کسی کی تحریر ہوگی۔ کسی کا راق اڑایا جائے گا۔ یہ سارے کام اس مجلس میں ہوں گے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فاٹل ہو گے۔ تو اس غفلت کے نتیجے میں وہ مجلس بہت سے گناہوں کا مجموعہ بن جائے گی، اس بات کو حضیر قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ مجلس قیامت کے روز حضرت کا سبب بنے گی، ہائے نہم نے وہ وقت کیا ضائع کر دیا، کیونکہ آخرت میں تو ایک ایک لئے کی قیمت ہوگی، ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ جب انسان کا حلب و کتاب ہو رہا ہو گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگی۔ اس وقت ایک ایک نیکی کا کال ہو گا، اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش، ایک نیکی میرے نامہ اعلیٰ میں بڑھ جاتی۔ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر مل باپ سے زیادہ شفیق اور صریان ہیں۔ وہ اس طرف توجہ دلارے ہیں کہ قبل اس کے کوہ حضرت کا وقت آئے، ابھی سے اس بات کا دھیان کرو کہ یہ مجلسیں حضرت بخشنے والی ہیں۔

تفصیل طبع کی باتیں کرنا جائز ہے

لیکن ایک بات عرض کر دوں کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس خنک اور کھردرا ہو کر رہ جائے، اور کسی سے کوئی خوش طبیعی اور تکلفگی کی بات ش کرے، یہ مقصد ہرگز نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صرورد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پاس بیٹھتے، تو کبھی آپ سے تفصیل طبع کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

روحوا القلوب ساعة فناعة

(کنز العمال، حدیث نمبر ۵۳۵۳)

بھی کبھی اپنے دلوں کو آرام اور راحت دیا کرو۔ اس لئے کبھی کبھی خوش طبیعی لور تکلفگی کی باتیں کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو زملہ جالیلت کے واقعات بھی کبھی کبھی ہیان کرتے کہ ہم زملہ جالیلت میں الی الی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے، اور بعض اوقات تبسم بھی فرماتے۔ لیکن ان مجلسوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، نجیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ ان مجلسوں کے باوجود دل کی لوالہ تبدک و تعطیل کی طرف گئی ہوئی ہے۔ ذکر اللہ سے وہ مجلس خلی نہیں تھی، مثلاً اس مجلس میں زملہ جالیلت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر او اکیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مثالیت اور گمراہی اور تدریکی سے نکل دیا، لہذا یہ طریقہ قا خضرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لور صحابہ کرام کا۔ اس کا مصدقہ تھے کہ:

دست بکار، دل بیدار

کہ ہاتھ لپنے کام میں مشغول ہے، زبان سے دوسرا باتیں نکل رہی ہیں، اور دل کی لو بھی اللہ چدک و تعطیل کی طرف گئی ہوئی ہے۔

حضور کی شان جامعیت

یہ بات کہنے کو تو آسان ہے، لیکن مشق سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ سے بدھا سنائے کہ ”یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ تمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بل اصناف جس کا ہر آن اللہ جل شکر سے رابطہ قائم ہے۔ وحی آرعنی ہے۔ طالعہ نازل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ایسے جلیل القدر مقامات پر جو ہستی فائز ہیں۔ وہ اپنے لعل و حیل کے ساتھ دل کی کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ اپنے لعل و حیل سے دنیا کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ جبکہ ہر وقت حضوری کا یہ علم ہے۔ مگر رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گیدہ حورتوں کی کملنی سنارہ ہے ہیں کہ گیدہ حورتوں تھیں۔ ان حورتوں نے یہ محلہ کیا کہ ہر حورت اپنے شوہر کی کیفیت بیان کرے کہ اس کا شوہر کیسا ہے؟ اب ہر حورت نے اپنے شوہر کا پورا حل بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ اب یہ سدا واقعہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنارہ ہے ہیں۔

(شماںل ترمذی، باب ماجاهی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السر) بہرحال، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جس ذات گرامی کا اللہ تعالیٰ سے اس درجہ تعلق قائم ہو۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں اور دل کی کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ لیکن بعد میں فرمایا کہ الحمد للہ، اب سمجھ میں آگیا کہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، کہ دل کی بھی ہوری ہے، اور اللہ چدک و تعلیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اس لئے کہ وہ دل کی اور بھی مذاق بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوری ہے۔ اور دل میں یہ خیل ہے کہ میرے اپر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق واجب کیا ہے کہ ان کا دل خوش کروں۔ اس حق کی وجہ سے یہ دل کی ہوری ہے۔ تو اللہ چدک کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہے، اور اس دل کی وجہ سے وہ رابطہ نہ ثوثا ہے، اور نہ کمزور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شخص نہیں آتا، بلکہ اس تعلق میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔

اکابر محبت پر اجر و ثواب

حضرت لام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اگر میں یہی

آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور لیک دوسرے سے محبت کا انقدر کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے ذہنوں میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں۔ تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ دل میں یہ لراہ کر لیا کہ میں ان تمام تعلقات کا حق اللہ کے لئے ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا ہوں تو اب اگر ہر مرتبہ میں اس بات کا استحضار بھی نہ ہو تو جب ایک مرتبہ جو نیت کر لی گئی ہے۔ انشاء اللہ وہ بھی کافی ہے۔

ہر کام اللہ کی رضاکی خاطر کرو

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صح کو پیدا ہو جاؤ، تو نماز کے بعد حلاوت قرآن لورڈ کر و نوکار اور معمولات سے قدرخ ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ حمد کرو کہ:

إِنَّمَا تَنْهَاكُ عَنِ الْمُحْسَنَاتِ إِنَّمَا تَنْهَاكُ عَنِ الْمُحْسَنَاتِ

(سورۃ الاعم: ۱۲۲)

اے اللہ، آج دن بھر میں جو کچھ کام کروں گا، وہ آپ کی رضاکی خاطر کروں گا۔ مکلوں کا تو آپ کی رضاکی خاطر۔ گھر میں جلوں کا تو آپ کی خاطر، بچوں سے بہت کروں گا تو آپ کی رضاکی خاطر، یہ سب کام میں اس لئے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیئے ہیں، لور جب ایک مرتبہ یہ نیت کر لی تو اب یہ دنیا کے کام نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب دین کے کام ہیں، اور اللہ کی رضاکے کام ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔

حضرت مجزوب اور اللہ کی یاد

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سره کے جو تربیت یافتہ حضرات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھی صفت عطا فریلی تھی، چنانچہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھایے واقعہ سنا کہ حضرت خواجہ غزیر المحن صاحب مہذوب

رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں تھے، ایک مرتبہ وہ اور ہم لوگ امر تسریں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدے سے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت آم کا موسم تھا، رات کو کھانے کے بعد سب لوگ مل کر آم کھاتے رہے، اور آپس میں بے تکلفی کی پاتیں بھی ہوتی رہیں، حضرت مہذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر بھی تھے، اس نے انہوں نے بست سے اشعل سنائے، تقریباً ایک گھنٹہ اس طرح گزر گیا کہ شعر و شاعری اور نہی مذاق کی پاتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حضرت مہذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے اچھک یہ سوال کیا کہ دیکھو، ہم سب ایک گھنٹے سے یہ پاتیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تلاوہ کہ تم میں سے کس کس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے غفلت ہوئی؟ ہم نے کہا کہ ہم سب ایک گھنٹے سے انہی باتوں میں خوش گپتوں میں منہک ہیں۔ اس نے سب ہی اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہیں، اس پر حضرت خواجہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اللہ کا نفضل و کرم ہے کہ مجھے اس پورے عرصے میں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غفلت نہیں ہوئی۔ دیکھنے، نہی مذاق بھی ہو رہا ہے۔ دل کی کی پاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ شعر بھی سنائے جا رہے ہیں، اور شعر بھی سادہ انداز میں نہیں۔ بلکہ ترجم کے ساتھ شعر سنائے جا رہے ہیں، بعض اوقات شعر و شاعری میں گھنٹوں گزار دیتے تھے، لیکن وہ فرمایا ہے ہیں کہ الحمد للہ مجھے اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہوئی، اس پورے عرصے میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہا۔

یہ کیفیت مشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطا فرمادے، اس وقت معلوم ہو گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔

دل کی سوئی اللہ کی طرف

میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب دیکھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا۔ حضرت والد صاحبؒ نے "اس مکتوب میں لکھا تھا کہ "حضرت، میں اپنے دل کی یہ کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح قطب نما کی سوئی ہیئت شبل کی طرف رہتی ہے۔ اسی طرح اب میرے دل کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ چاہے کہیں پر بھی

کام کر رہا ہوں۔ چاہے مدرسہ میں رہوں، یا گھر میں ہوں۔ یادوگان پر ہوں، یا بازار میں ہوں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تعلق بھون کی طرف ہے۔“

اب ہم لوگ اس کیفیت کو اس وقت تک کیا سمجھ سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو عطا نہ فرمادے۔ لیکن کوشش اور مشق سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ چلتے پھر تے اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہوتا رہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے دل گلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مگر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرمادے۔ آمين۔

دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا ہے

یہ سندی دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمارہے ہیں، ان سب کا مستثنیہ مقصود یہ ہے کہ جس کسی کام میں تم لگے ہوئے ہو، جس حالت میں بھی تم ہو، مگر تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔۔۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا ہے۔ دوسرے حصتے اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ یہ سب دنخوی کاموں کے لئے ہے کہ ان کے ذریعہ دنیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جاؤ، لیکن یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصہ اپنے لئے بنایا ہے، تاکہ اس کے اندر اللہ کی جگی ہو، اس کی محبت سے یہ معمور ہو، اس کے ذکر سے یہ آباد ہو، اس پلت کو حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان الفاظ کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ ”افضل عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔“ اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اترنے کا نیشنہ بنایا ہے، اس لئے جب زبان سے ذکر کرتے رہو گے تو انشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آتے دیں گے، اور طریقت، تصور و سلوک کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح سما جائے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی جگی گہہ بن جائے،

مجلس کی دعا اور کفارہ

بمرحل، حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص

اسی مجلس میں پیشے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہ مجلس قیامت کے دن باعث حضرت بنے گی، اور اسی لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ وہ ہم جیسے عاقلوں کے لئے کمزوروں کے لئے اور تن آسلوں کے لئے آسان آسان نسخہ بتا گئے، چنانچہ آپ نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا کہ جب کسی مجلس سے اٹھنے لگو یہ کلمات کہ لو:

مُبَخِّنَ رَقِيقَ رَوْتَ الْعَرَقَ وَعَكَمَ يَصْفُونَ هَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تھی، تو اب اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئی۔ اب اس مجلس کے بعد میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہو گیا، اگرچہ آخر میں ہوا، اور دوسرے یہ کہ مجلس میں جو کسی کوتایی ہوئی اس کے لئے یہ کلمات کفر ہو جائیں گے انشاء اللہ — اور دوسرا کلمہ یہ پڑھے:

مُبَخِّنَ الْفُؤُدَ وَبِعِمْدِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لَدُنَّ اللَّهِ إِلَآ أَنْتَ.

أَمْتَغْفِلُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی کفدة المجلس، حدیث نمبر ۳۸۵۹)

بمرحل، یہ دونوں کلمات اگر مجلس سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لو گے تو انشاء اللہ پھر قیامت کے دن وہ مجلس باعث حضرت نہیں بنے گی، اور اس مجلس میں جو کسی کوتایی یا صیررو گناہ ہوئے ہیں۔ وہ انشاء اللہ معاف ہو جائیں گے، البتہ جو کبیرہ گناہ کئے ہیں تو وہ اس نے کے ذریعے معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک آدمی توبہ نہ کر لے، اس نے ان مجلس میں اس کا خاص انتہام کر لیں کہ ان میں جھوٹ نہ ہو، غبیب نہ ہو۔ دل آزاری نہ ہو، اور چتنے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سے احتساب ہو، کم از کم اس کا اہتمام کر لیں۔

سو نے کو عبادت پنا لو

اس حدیث میں اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ:

وَمَنْ أَضْطَجَعَ مُضْطَجِعًا لَا يَذْكُرُ أَمْثَهْ تَعْلَمَهُ فِيهِ كَافَتْ عَلَيْهِ
مِنْ أَنْ شَهَدَ مَرْءَةً

یعنی جو شخص کسی ایسے بستر پر لیٹئے کہ اس لیٹنے کے سلے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا

نام نہ لے تو وہ یعنی بھی قیامت کے روز اس کے لئے حضرت کا ذریعہ بنے گا کہ اس دن میں یعنی تھا۔ لیکن میں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے کہ نہ سوتے وقت دعا پڑھی لعدہ بیداری کے وقت دعا پڑھی، اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے بھی ذکر کرو، اور آخر میں بھی ذکر کرو، اور درحقیقت مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ذکر کر کے سوئے اس لئے کہ ایک کافر بھی سوتا ہے، اور ایک مومن بھی سوتا ہے، لیکن کافر غفلت میں سوتا ہے، اللہ کو یاد کئے بغیر سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سدا سونا اس کے لئے عملوت بن جاتا ہے۔

اگر تم اشرف الخلوقات ہو

یہی وہ طریقے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائے، اور ہمیں جانوروں سے متاز کر دیا۔ کافروں سے متاز کر دیا۔ آخر گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کونسا جانور ایسا ہے جو نہیں سوتا ہو گا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو اشرف الخلوقات کہتے ہو تو پھر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اپنے خالق کو یاد کرنا نہ بھولو۔ اسی لئے وہاں ہمیں تلقین فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا پابند ہنادے، اور اسکے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمادے۔ آمین۔

ایسی مجلس مردار گدھا ہے

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مَنَعَ قَوْمًا مِّنْ يَقُولُونَ مِنْ سُنْنَةِ مَنْ يَذَكُّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا فِيهِ إِلَّا قَوْمٌ أَعْتَدْنَا لَهُمْ مِّثْلَ جَيْفَةَ حَمَاءٍ.. وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ“

(ابو داؤد، کتاب الادب، باب کراہیہ ان یقون الرجل من مجلس، حدیث نمبر ۲۸۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ

مجلس ایسی ہے جیسے کسی مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے، گواکہ وہ مجلس مردہ گدھا ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور قیامت سکریڈر مجلس ان کے لئے حضرت کا سبب بنے گی۔

نیند اللہ کی عطا ہے

یہ سونے اور اس کے آداب، لیٹنے اور اس کے آداب اور اس کے متعلقات کا بیان جل رہا ہے، لور جیسا کہ میں پسلے بھی حرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ بیا نہیں ہے، جس کے پڑے میں بھی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ نہ بتایا ہو، لور جس کے پڑے میں یہ نہ بتایا ہو کہ اس وقت حسین کیا کرنا چاہئے۔ نیند بھی اللہ جبار ک دتعلیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہوتا پڑتے گے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بڑی صیبت ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمادی ہے، اور اس طرح عطا فرمائی ہے کہ ہدی کسی نعمت کے بغیر نظام ہی ایسا ہنا دیا کہ وقت پر نیند آ جائی ہے، افسن کے جسم میں کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ اگر اس کو دبادو گے تو نیند آ جائے گی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔

رات اللہ کی عظیم نعمت ہے

میرے والد ماجد قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کا نظام ایسا ہنا دیا کہ سب کو ایک ہی وقت میں نیند کی خواہش ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ہر شخص نیند کے معاملے میں آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سو جائے۔ توبہ یہ ہوتا کہ ایک آدمی کامیح آٹھ بجے سونے کا دل چلا رہا ہے۔ ایک آدمی کا پدر بجے سونے کا دل چلا رہا ہے، ایک آدمی کا پدر بجے سونے کا دل چلا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی سونا چلا رہا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے سر پر کھٹ کھٹ کر رہا ہے، تو اب صحیح طور پر نیند نہیں آئے گی، بے آرائی رہے گی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا ہنا دیا کہ ہر فلان کو، چاتوروں کو پرندوں، چندوں کو درندوں کو ایک ہی وقت میں نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے

تھے کہ کیا ایک وقت میں سونے کے نظام کے لئے کوئی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی؟ اور سدی دنیا کے نمائندوں کو بلاؤ کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انہیں کے لوپر اس معاٹے کو چھوڑا جاتا تو انہیں کے بس میں خیس تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنانا تاکہ ہر آدمی اس وقت سورہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے دل میں خود بخوبیہ احساں ڈال دیا کہ یہ رات کا وقت سونے کا ہے، لور نیند کو ان پر سلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سورہ ہے ہیں، اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ:

وَجْهُ الدِّيْنِ سَكَنَا

(سورة الانعام: ۹۹)

کہ رات کو سکون کا وقت بتایا، دن کو معیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بتایا، اس لئے یہ نیند اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اس کی عطا سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذرا سایاد کر لو کہ یہ عطاکس کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر ادا کرلو، اور اس کے سامنے حاضری کا احسان کرلو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے لور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

وَإِنْهُوَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا يُؤْتَ الْعَالَمِينَ

تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مذہب



مطبع و تحریر
مکتبہ اشاعتیں

میجن اسلامک پبلیشورز

"یات آپری" ۱۰۰/۱۰۰

متاریخ خطاب : ۲۷ اگسٹ ۱۹۹۳ء

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر ہا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳

: صفحات

جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتی، پھر انسان عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بستر سے بہتر انعام دیتا ہے، پھر اس کو اخلاق فاضلہ ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رزیلہ سے تجلیت مل جلتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع اللہ
— حاصل ہوتی ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ

الحمد لله نحمد الله ونستغفه ونستعينه ونستغفه وتؤمن به و تتوكل عليه، ونعرف بالله من شرور انسنا و من ميئات اعمالنا من يهدى الله لا مضل له ومن يضل الله فلا هادى له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان سيدنا و مولاه صلواته تعالى عليه و عز وجل الله و اصحابه و بارك و مسلم تسليماً كثيراً كثيراً - اما بعد!

عن ابى سعید الخدراوی رضوانہ عنہ قال کان رسول اللہ صلواتہ علیہ وسلم اذا استجدت شیء فی اسماء ہاسہ، عمامۃ او قبیصاً او رسداً فیقول اللہ عز وجل الحمد لله

کسوتنیه، اساؤت خیر و خیر ما صنعت له، و لامور من شر و شر ما صنعت له۔

(ترمذی کتب الہدایہ، باب ما یقول لزما بیس ثوابہ جدیدا، حدیث ببرہ ۱۶۷)

نیا کپڑا پہننے کی دعا

حضرت ابو سعید خدراوی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام لیتے، چاہے وہ عمار یا قیص ہو یا چادر ہو، لور اس کا نام لے کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، آپ کا شکر

ہے کہ آپ نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا، میں آپ سے اس لباس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جن کاموں کے لئے یہ بنا یا گیا ہے، ان میں سے بہتر کاموں کا سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس لباس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور جن برے کاموں کے لئے یہ بنا یا گیا ہے، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔

ہر وقت کی دعا الگ ہے

لباس پہننے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو پھر اردو ہی میں لباس پہننے وقت یہ الفاظ کہہ لیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اللہ جل شانہ سے دعائیں لئے کا طریقہ سکھایا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو محتاج توبے انتہا ہیں۔ لیکن ہمیں ماں لئے کاڈھنک بھی نہیں آتا، ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ کیا ماں گا جائے۔ اور نہ یہ معلوم ہے کہ کس طرح ماں گا جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو۔ صبح سے لے کر شام تک بے شمار اعمال انسان انجام دلتا ہے۔ تقریباً ہر عمل کے لئے علیحدہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، مثلاً فرمایا کہ صبح کو جب بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، جب استجاء کے لئے جائے گلو تو یہ دعا پڑھو، استجاء سے فارغ ہو کر باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو، جب وضو شروع کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعائیں پڑھتے رہو، وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو، جب نماز کے لئے مسجد میں داخل ہونے گلو تو یہ دعا پڑھو، اور پھر مسجد میں عبادت کرتے رہو، پھر جب مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، جب اپنے گھر میں داخل ہونے گلو تو یہ دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو یہ دعا پڑھو، کویا کہ ہر ہر نقل و حرکت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمادیں کہ یہ دعائیں اس طرح پڑھا کر دو۔

تعلق مع اللہ کا طریقہ

یہ ہر ہر نقل و حرکت پر علیحدہ علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ یہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لئے نسخہ اکسیر بتا دیا، اللہ

تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راست یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ

يَا يَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اَللَّهَ بِذَكْرِنَا كَيْفِيْتُمَا

(سورہ الاحزاب ۲۱)

اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ اور حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کونا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اتنی میکوت لسانک در طبا بذکر ادھے

(تفہی کتاب الدعوات، باب فضل الذکر، حدیث تمبر ۷۲۸۲)

یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان پر ذکر جلدی رہے۔ خلاصہ یہ کہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم قرآن کریم نے بھی دیا، اور حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

اللہ ذکر سے بے نیاز ہے

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت ذکر کا کیوں حکم دیا؟ — العیاذ بالله — کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کچھ فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس سے لذت آتی ہے؟ یا اس کو کوئی نفع ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اور اس پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ساری کائنات ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے تو اس کی کبriائی میں، اس کے جلال و جمل میں، اس کی عظمت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر — العیاذ بالله — ساری کائنات مل کر اس بات کا عمد کر لے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بجلادیں، ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اور مخفیتوں کا ارتکاب کرنے لگیں تافرانوں میں جتنا ہو جائیں تو اس کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوگی، وہ ذات تو بے نیاز ہے "الله الصمد" وہ ہمارے ذکر سے بھی بے نیاز، ہمارے بھروسے بھی بے نیاز، ہماری تبعیج سے بھی بے

تیاز، اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں۔

برائیوں کی جڑ اللہ سے غفلت

لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لئے کہ دنیا میں بنتے جرائم، بدعتوں ایسا اور بد اخلاقیں برائیاں ہوتی ہیں، آرمان رب برائیوں کی جڑ دینمیں جائے تو وہ اللہ سے غفلت ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا بیٹھتا ہے، تب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہو کہ بک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر گناہ سرزنشیں ہو گا،

چور جس وقت چوری کر رہا ہے، اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہیں کرتا، بد کار جس وقت بد کاری کر رہا ہے، اس وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تو وہ بد کاری کا ارتکاب نہ کرتا، اسی بات کو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَا يَرْزُقُ الْمُرَاجِعَ حِينَ يَرْزُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا يُسْرِقُ السَّارِقَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا يَشْرُبُ الشَّارِبَ حِينَ يَشْرُبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(صحیح مسلم، نصاب الایمان، باب بیان فتنہ صان الائمان، حدیث نمبر ۱۰۰)

یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، مؤمن نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان اس وقت مستحضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انی یاد اور اس کا ذکر مستحضر نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں ہوتی، اگر یاد دل میں ہوتی تو یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ لہذا

ساری برائیاں، سارے مظالم، ساری بد اخلاقیاں جو دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔

اللہ کہاں گیا؟

ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ لے پاہر کسی مانستہ میں گئے۔ ایک بکریوں کا چڑواحہ ان کے پاس سے گزرا، جو روزے سے تھا، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کو آزمائناں کے لئے اس سے پوچھا کہ اتر تم بکریوں کے اس گلے میں سے ایک بکری ہمیں بھی دیدیں گے جس پر تم افطار کر سکو، اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چڑواحہ نے پیچھے پھیسری اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا: فاذین اللہ؟ یعنی اللہ کہاں گیا؟ اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑواحہ کے اس جملے کو دھراتے رہے، مدینہ منورہ پہنچے تو اس چڑواحہ کے آقا سے مل کر اس سے بکریاں بھی خرید لیں اور چڑواحہ کو بھی خرید لیا، پھر چڑواحہ کو آزاد کر دیا، اور ساری بکریاں اس کو تجھے میں دیدیں۔

ذکر سے غفلت، جرام کی کثرت

یہ بے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، جو دل میں اس طرح جنم گیا کہ کسی بھی وقت دل

نہ نہیں نکلتا، نہ جنگل کی تہبائی میں۔ نہ رات کی تاریکی میں۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس و چیز ہے جو تہبائی میں بھی انسان کے دل پر پھرے بخادیتا ہے، اور اگر یہ احساس باقی نہ رہے تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہے یہیں کہ آج پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے، حکاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، عدالتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ فوج کلی ہوئی ہے، گلی کو چوں میں پھرے لکے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کے جان و مال اور آبرو پر کس طرح جعلے ہو رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ جرائم کی جزا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ جل شانہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں نہ سا جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو، لہذا جب تک دل میں یہ شع فروزان نہیں ہوتی، اس وقت تک ہزار پھرے بخالو، ہزار فوجی بیالو، مگر جرائم بند نہیں ہوں گے، ذرا سی کسی کی آنکھ بہکے گی، اور جرم ہو جائے گما، بلکہ جو آنکھ حفاظت کے لئے مقرر تھی، آج وہ آنکھ جرم کراو رہی ہے، جس کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لئے بخایا گیا تھا، وہی لوگ جان و مال پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ لہذا جب تک اللہ کا ذکر، اس کی یاد میں نہ ہو، جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، اس وقت تک جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

جرائم کا خاتمہ حضور نے فرمایا

جرائم کا خاتمہ تو نہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہ پولیس ہے، نہ محکمہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، بلکہ جس کسی سے جرم صادر ہو گیا تو وہ روٹا ہوا آرہا ہے کہ یا رسول اللہ ہنو پر سزا جائی، یا کوئی سجن نہیں، تاکہ میں آخرت کے عذاب سے نفع جاؤں، اور ایسی سزا باری کریں کہ پتھر مار مار لجھتے ہلاک کر دیجئے، اور مجھے رجم کر دیجئے۔ بس بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا خوف دل میں نہ گیا تھا، اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

کثرت سے ذکر کرو، ورنہ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جتنا ذکر کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا احساس دل میں پیدا ہو گا، اور پھر جنم گبنا، محیت اور نافرمانی سے انشاء اللہ بچلو ہو گا، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔

زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ اگر صرف زبان سے "اللہ اللہ" کر رہے ہیں۔ یا "سبحان اللہ" کہہ رہے ہیں۔ یا زبان سے "الحمد لله" کہہ رہے ہیں اور دل کسیں ہے دماغ کسیں ہے تو اس سے کیا حاصل؟ یاد رکھو یہ زبان سے ذکر کرنا اپنی سیرہ ہی ہے، اگر یہ سیرہ قطع نہ کی تو دوسرا سیرہ پر کبھی نہیں پہنچ سکتے، زندگی بھر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر یہ سیرہ قطع کر لی، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو کم از کم ایک سیرہ قطع ہو گئی پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرا سیرہ بھی قطع کر دیں گے۔ اس لئے اس ذکر کو بے کلام سمجھو، یہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر ہمارا سدا جسم نہ سی تو کم از کم ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اس میں لگے رہے تو انشاء اللہ آگے جا کر کسی ترقی کر جائے گا۔

تعلق مع اللہ کی حقیقت

بمرحال، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے دل میں سما جانے کا نام ہی "تعلق مع اللہ" ہے۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تکچھ رابطہ اور تعلق قائم ہے، صوفیائے کرام کے سلسلوں میں جتنی ریاستیں مجلدات، وظیفے اور اشغال ہیں۔ ان سب کا حاصل ہے اور خلاصہ ہوئے مقصود صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے "تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا"۔ اس نے کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے گندہ بھی نہیں ہوتے، پھر انسان اللہ کی عبادت بھی اپنی بساط کے مطابق بستر سے بہتر انجام دیتا ہے، پھر اخلاق فاضلہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رذیلہ سے نجات مل جاتی ہے یہ سب چیزیں تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتی ہیں۔

ہر وقت مانگنے رہو

اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے یہاں بڑے لمبے چوڑے مجاہدات اور ریاضتیں کرتی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کے لئے میں تمہیں ایک مختصر اور آسان راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر لمحے مانگنے اور مانگنے رہنے کی عادت ڈالو، ہر چیزِ اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو دکھ اور تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، جو ضرورت اور حاجت ہو، بس اللہ تعالیٰ سے مانگو، مثلاً اگر گرمی لگ رہی ہے، کہو، اے اللہ، گرمی دور فرمادیجھے، بھلی چلی گئی، یا اللہ بھلی عطا فرمادیجھے، بھوک لگ رہی ہے، کہو، یا اللہ، اچھا کھانا دے دیجھے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی یا اللہ، گھر میں اچھا منظر سامنے آئے۔ غافیت کی خبر ملے، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو۔ دفتر میں داخل ہونے سے پہلے کہو یا اللہ، دفتر جارہا ہوں، حالات صحیک رہیں۔ طبیعت کے موافق رہیں۔ کوئی ناخوش گوار بات پیش نہ آئے، کوئی تکلیف کی بات پیش نہ آئے، بازار جارہا ہے ہو، کہو، یا اللہ، فلاں چیز خریدنے جارہا ہوں، مناسب قیمت پر مناسب چیز دلا دیجھے۔ ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔

یہ چھوٹا سا چشکلہ ہے

واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہے اس لئے کہ یہ کام اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، اسی وجہ سے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس تھنخ پر عمل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رٹ لگاؤ، جو مسئلہ سامنے آئے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ کام کر دیجھے، اگر اس کی عادت ڈال لو تو پھر کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے خالی نہیں جائے گا، مثلاً ایک آدمی سامنے سے آپ سے ملاقات کے لئے آ رہا ہے، آپ ایک لمحے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، کہ یا اللہ یہ شخص اچھی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یا اللہ، یہ شخص جو بات کہنا چاہ رہا ہے، اس کا اچھا نتیجہ نکل دیجھے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لئے جا رہے ہیں، کہو، یا اللہ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح تجویز ڈال دیجھے، صحیح دوا اس کے دل میں

ذال دینجے، گویا کہ ہر حالے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ چھوٹا سا چشک لد اور چھوٹا سا نسخہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چکلے پر عمل کر کے دیکھو، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کہل سے کہل پہنچ جاتا ہے۔

ذکر کے لئے کوئی قید و شرط نہیں

اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں، حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعہ اس بخش کی طرف لا رہے ہیں، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس مانگنے کو اور فرمایا کہ اتنا آسان فرمادیا ہے کہ اس پر کوئی قید اور شرط نہیں ملکی، بلکہ کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، نہ دوسوکی شرط، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی دعا مانگنا منوع نہیں ہے، اگرچہ اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں، لیکن دعا کر سکتے ہو، حتیٰ کہ جس وقت انسان قضاء حاجت میں مصروف ہے، اس وقت زبان سے کوئی دعا نہیں کرنی چاہئے، زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہئے، اس وقت بھی دل دل میں ذکر کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی قید و شرط نہیں، اور کوئی خاص طریقہ نہیں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر مانگو لیکن اگر ایسا موقع نہ ملے تو نہ دوسوکی شرط، نہ ہاتھ اٹھانے کی شرط، نہ زبان سے بولنے کی شرط، بلکہ دل دل میں اللہ تعالیٰ سے ملک لو، یا اللہ یہ کام کر دینجے۔

حضرت تھاقوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لئے آتا ہے، اور آکر یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، تو اس وقت فوراً دل دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ شخص معلوم نہیں کیسا سوال کرے گا۔ اے اللہ اس سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ذال دینجے، اور کبھی اس عمل سے تخلف نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ عمل کرتا ہوں۔

مسنون دعاؤں کی اہمیت

اب ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نکتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا کہ مانگنے کی خاص خاص جگہیں بتادیں کہ اس جگہ تو مانگ ہی لو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان غظیم پر قربان جائیئے کہ انسوں نے دعا مانگنا بھی سکھا دیا۔ ارے تم خود کیا مانگو گے؟ کس طرح مانگو گے؟ کن الفاظ سے مانگو گے؟ تمہیں تو مانگنے کا ذہنگ بھی نہیں آتا۔ یہ مانگنے کا ذہنگ بھی میں ہی تم کو بتا دیتا ہوں کہ یا مانگو، اور اس طرح مانگو، ان الفاظ سے مانگو، یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے، اب ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب وہ موقع آئے تو توجہ کے ساتھ وہ دعا مانگ لیا کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ سب کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ پکی پکالی روٹی تیار کر کے پوری امت کے لئے چھوڑ گئے۔ اب امت کا کام ہے کہ اس روٹی کو اٹھا کر اپنے طلق میں ڈال لے، بس اتنا کام بھی ہم سے نہیں ہوتا، اور علماء نے ادعیہ ماثورہ اور مسنون دعاؤں کے نام سے بے شک کتابیں لکھ دیں، اور اس میں وہ دعائیں جمع کر لیں، تاکہ ہر مسلمان اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لے۔ پہلے مسلمان گمراہوں میں یہ رواج تھا کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائی جاتیں۔ کہ بیناً سُمَّ اللَّهُ بِذَرْبِ كَفَّاهَا كَفَّاهُ، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، کپڑے پہن تو یہ دعا پڑھو، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کام کے لئے باقاعدہ کلاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور پھر بچپن کا حافظہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پھر پر لکیر، سدی عمر یاد رہتا ہے، اب بڑی عمر میں یاد کرنا آسان کام نہیں، لیکن بہر حال، یہ کام کرنے کا ہے، ہر مسلمان اس کو غنیمت سمجھے۔ اور یہ مسنون دعائیں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتیں۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، روزانہ ان مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یاد کر لو، اور پھر اس کو موقع پر پڑھنے کا عزم کر لو کہ جب یہ موقع آئے گا، اس دعا کو ضرور پڑھیں گے پھر دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کیسے انوار و برکات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مَنْخَرِكُو لَمَّا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

زبان کی حفاظت کیجئے

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب طلبم



منسٹری و ترتیب
محمد عبد الداہش

میمن اسلامک پبلیشورز

"ریاست کا بورڈ، کراچی"

یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں ذرا غور تو کرو کہ کہ یہ کتنی عظیم فتحت ہے۔ اور یہ بولنے کی ایک ایسی دے دی ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ پڑوں کی ضرورت، نہ بودوں ہانگ کی ضرورت لیکن یہ مشین تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس امت ہے یہ سرکاری مشین ہے، جب یہ امت ہے تو پھر اس کو ان کی رضاکے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو دل میں آیا، بک دیا، بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکالو، دوسری باتیں مت نکالو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زبان کی حفاظت کجھے

الحمد لله نحمد الله ونشعيره ونشترفه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعرف بعلمه
من شرور انسنا ومن میثات اعمالنا من يهدى الله فلامضله ومن يضلله
فلاهاد عليه وشهادان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهادان سيدنا وآد
سندا وشفيتنا ومولانا محتدا عبد الله رسوله صلى الله تعالى عليه وعله آله و
اصحابه وبارك وسلام تسليماً كثيراً كثيراً - اما بعد!

تین احادیث مبارکہ

عن ابی هریرہ رضوی عن عائشہ ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم
قال مرت کات بیوت باشہ والیوم ما اخر خلیق خیباً ولیست.

(صحیح بخاری، کتاب الادب باب من كان يحيى من بالله واليوم آخر)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو
چاہئے کہ یا تو وہ اپھی لورنیک بات کے، یا خاموش رہے۔

دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
عن ابی هریرہ رضوی عنہ انه سمع النبي صلی الله علیہ وسلم يقول ان العبد يخلد بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بما
فالتار بعد ما بين المشرق والمغارب -

(صحیح بخاری، کتاب الرائق، باب حفظ اللسان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچ سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس شخص کو جنم کے اندر اتنی گمراہی تک گرا دیتا ہے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعد ہے۔ ایک تیسری حدیث بھی اس معنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ مَا حَصَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَلْقَى بِهَا بِالْأَوْرَاقَ إِذَا رَفَعَ الْجَنَّةَ، وَلَمَّا كَلَّمَ بِالْكَلْمَةِ مِنْ مَخْطَلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَلْقَى بِهَا بِالْأَوْرَاقَ بِهَا فِي جَهَنَّمَةِ

(صحیح بن ماجہ، کتب الرائق، باب حفظ الانسان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جب وہ کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس وقت اس کو اس کلمہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور لا پرواہی وہ کلمہ زبان سے نکل دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی بدولت جنت میں اس کے درجات بلند فرمادیتے ہیں، اور اس کے بر عکس بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بدراخ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ شخص لا پرواہی میں اس کلمہ کو نکل دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے۔

زبان کی دیکھ بھال کریں

ان تینوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرغیت میں خرج کرے، اور اس کے نہ اضافتی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا: اس کے بعد اگوں کے لئے سب سے زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، مگر

سر زدہ ہوں۔ ان گناہوں میں یہاں زبان کے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے، چونکہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سوچے سمجھے بغیر بے پرواٹی کی حالت میں پائیں کر لیتا ہے، اور وہ پائیں اس کے لئے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں، اس لئے حضور نبی ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھل کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی نازبان سے کہتی ہے تو کمو، درست خاموش رہو۔

زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتابِ دنیا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمادیا۔ اور بولنے کی ایسی مشین عطا فرمادی کہ جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے، اور چل رہی ہے اور اس طرح جل رہی ہے کہ آدمی نے ادھر ذرا را وہ کیا۔ اور اس نے کام شروع کر دیا اب چونکہ اس مشین کو حاصل کرنے کے لئے کوئی عنت لور مشقت نہیں کی۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی اور جو نعمت بھی پیشے بھائے بے ما نگہ مل جلتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اب یہ زبان بھی پیشے بھلے مل گئی، اور مسئلہ کام کر رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس زبان سے بول پڑتے ہیں اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے آدمی کوئی پلت کرنا چاہتا ہے، مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کا انکھد نہیں کر سکتا، اس سے پوچھو وہ بتائے گا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتابِ دنیا نام ہے۔

اگر زبان بند ہو جائے

اس بات کا ذرا تصویر کرو کہ۔ خدا نہ کرے۔ اس زبان نے کام کرنا بند کر دیا اور اب تم بولنا چاہتے ہو لیکن نہیں بولا جاتا، اس وقت کیسی بے چارگی اور بے بُی کا حالم ہو گا۔ میرے ایک عزیز جن کا بھی حل عی میں اپریشن ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپریشن کے بعد کچھ دیر میں حالت میں گزری کہ سدا جسم بے حس تھا، پیاس شدید لگ رہی تھی

سامنے آدمی موجود ہیں، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاوو، لیکن زبان نہیں چلتی، آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا گیا۔ بعد میں وہ کہتے تھے میری پوری زندگی میں وہ آدھا گھنٹہ جتنا تکلیف وہ تھا، ایسا وقت بھی میرے لوپر نہیں گزرا تھا۔

زبان اللہ کی امانت ہے

الله تعالیٰ نے زبان اور دملغ کے درمیان ایسا انکشش رکھا ہے کہ جیسے ہی دملغ نے یہ ارادہ کیا کہ فلاں کلمہ زبان سے نکلا جائے، اسی لمحے زبان وہ کلمہ ادا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمال کرو، تو اس کے لئے پسلے یہ علم سیکھنا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت سے الف نکلیں۔ زبان کو کہاں لے جا کر ”ب“ نکلیں تو پھر انسان ایک مصیبت میں جتنا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بلت رکھ دی کہ جو لفظ وہ زبان سے ادا کرنا چاہ رہا ہے تو بس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے لیکن اب ذرا اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید کر لے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں، بلکہ تمہارے پاس امانت ہے اور جب ان کی دی ہوئی امانت ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رخصا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ جو دل میں آیا، ابک دیا۔ بلکہ جو بلت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، وہ نکلو، اور جو بلات اللہ کے احکام کے مطابق نہیں وہ بلت مت نکلو۔ یہ سرکاری مشین ہے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔

زبان کا صحیح استعمال

الله تعالیٰ نے اس زبان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زبان کو صحیح استعمال کر لے، جیسا کہ آپ نے ابھی لوپر ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک شخص نے ایک کلمہ بے پرواہی میں زبان سے نکل دیا مگر وہ کلمہ اچھا تھا۔ تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانتے اس کے کتنے درجات بلند فرمادیتے ہیں، لور اس کو کتنا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔

جب ایک انسن کافر سے مسلم ہوتا ہے تو وہ اسی زبان کی بدولت ہوتا ہے، زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے:

اَشْهَدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اس کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا مگر اس کے پڑھنے کے بعد مسلم ہو گیا، پہلے جنتی تھا، اب جنتی بن گیا، پہلے اللہ کا مبغوض تھا، اب محبوب بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہو گیا، یہ عظیم انقلاب اس ایک کلمہ کی بدولت آیا جو اس نے زبان سے ادا کیا۔

زبان کو ذکر سے ترکھو

ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا:

”بِحَمْدِ اللَّهِ“ توحید شریف میں آتا ہے کہ اسکے ذریعہ میزان عمل کا آدھا پڑا بھر جاتا ہے، یہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا عظیم ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ”بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِحَمْدِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ“ یہ دو کلمے زبان پر تو ہلکے ہلکے ہیں کہ ذرا ہی دیر میں ادا ہو گئے، لیکن میزان عمل میں بست بحدی ہیں، اور رحمن کو بست محبوب ہیں۔ بر حل: یہ مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی بیانی ہے کہ اگر ذریعہ اس کارخ بدلت دو، اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو، تو پھر دیکھو یہ تمدنے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، اور تمدنے لئے جنت میں کس طرح گھر بیٹھا ہے، اور تمہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا کرتی ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر سے اس زبان کو ترکھو، پھر دیکھو کس طرح تمدنے درجات میں ترقی ہوتی ہے، لیک محالی نے پوچھا یا رسول اللہ؟ کون اعمال افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمدنی زبان اللہ کے ذکر سے ترہے، چلتے پھرتے وختے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ (تمہی، کتب الدعویٰ، باب فضل الذکر، حدیث نمبر ۳۲۷۶)

زبان کے ذریعہ دین سکھائیں

اگر اس زبان کے ذریعہ سے تم نے کسی کو چھوٹی سی دین کی بات سکھاوی، مثلاً

ایک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چپکے سے شمال میں نری کے ساتھ محبت اور شفقت سے اس کو سمجھا دیا کہ بھل! تمہدی نماز میں یہ غلطی تھی۔ اس طرح کر لیا کرو۔ آپ کی زبان کی ذرا ہی حرکت سے اس کی اصلاح ہو گئی۔ اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو اب سدی عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گا تو ان سب کا اجر و ثواب تمہدے ہامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔

تلی کا کلمہ کہنا

ایک شخص تکلیف اور پریشانی میں بجا تھا، تم نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لئے اس سے کوئی تسلی کی بات کوئی تسلی کا کلکر کہ دیا جس کے نتیجے میں اس کو کچھ ڈھارس بن گئی، اس کو کچھ تسلی حاصل ہو گئی، تو یہ کلکر کہتا تمہارے لئے عظیم اجر و ثواب کھینچ لایا، چنانچہ ایک حدیث میں حضور نہدس صلی اللہ علیہ وسلم نے در شو فرمایا کہ:

مَنْ عَزِيزٌ شَكَلَ كُسْبَى بِرَدَادِ فِلَجَةَ

(ترمذی، کتب البخاری، باب فی فضل التعریفة، حدیث نمبر ۶۷۰)

یعنی اگر کوئی شخص اسکی عورت کے لئے تسلی کے کلمات کے جس کا بینا کم ہو گیا ہو، یا مر گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس تسلی دینے والے کو جنت میں بیش بہائیتی جوڑے پہنچیں گے۔

غرض یہ کہ اس زبان کو ٹھیک کاموں میں استعمال کرنے کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان میں اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرو، پھر دیکھو گے کہ تمہدے ہامہ اعمال میں کس طرح ثواب کے ذمیر لگ جائیں گے، مثلاً کوئی شخص جارہا تھا تم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو صحیح راستہ چاہا دیا۔ اب یہ چھوٹا سا کام کر دیا، اور تمہیں خیل بھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کوئی نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدالے میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرماہیں گے۔ بہرحال: اگر ایک انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے تو یقین سمجھئے اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شمار گناہوں کی مغلق کا ذریعہ بن جائے، لیکن۔ خدا نہ کرے۔ اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہو، تو پھر

یہی زبان انسان کو جنم میں سمجھنے کر لے جاتی ہے۔

زبان جنم میں لے جانے والی ہے

ایک حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جنم میں جائیں گے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جنم میں جائیں گے۔ مثلاً جھوٹ بول دیا، غبیت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ غبیت میں حصہ لیا، کسی کو تکلیف پر خوشی کا انعام دیا وغیرہ جب یہ گناہ کے کام کے تو اس کے نتیجے میں وہ جنم میں چلا گیا، حدیث شریف میں فرمایا کہ :

هُلْ يَكْبُدُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ هُمْ الْأَحْصَدُ الْأَنْتَهُمْ

(تذہی، کتب الائیمان، باب ماجاه فی حرمة الصلاة، حدیث نمبر ۳۶۶)

یعنی بہت سے لوگ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جنم میں جائیں گے۔ لذایر زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قہوہ میں رکھو، بے قہوہ مت چھوڑو، اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو، اس لئے فرمایا کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموشی اس سے ہزار درجہ بستر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے۔

پہلے تو کو پھر بولو

اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسن زیادہ بولے گا تو زبان قہوہ میں رہے گی، کچھ نہ کچھ کثرہ ضروری کرے گی، لور اس کے نتیجے میں انسن گناہ میں چلتا ہو جائے گا، اس لئے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو، جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تو کو، پھر بولو، جب تول تول کربات کرو گے تو پھر یہ زبان قہوہ میں آجائے گی۔

حضرت میاں صاحب رحمة اللہ علیہ

میرے والد مجدد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کے ایک استاد

تھے حضرت میں سید اصغر حسین صاحب قدس اللہ سرہ بڑے لوچے درجے کے بزرگ تھے۔ اور ”حضرت میں صاحب“ کے نام سے مشور تھے، یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازد کر دیں، میرے حضرت والد صاحب ان سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے اور حضرت میں صاحب بھی والد صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر بیٹھ گیا تو حضرت میں صاحب ”کہنے لگے کہ بھلی دیکھو مولوی شفیع صاحب آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں بات نہیں کریں گے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، آج بیٹھنے بٹھائے یہ عربی میں بات کرنے کا خیال کیسے آیا۔ میں نے پوچھا حضرت! کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا: نہیں بس ویسے ہی خیال آگیا کہ عربی میں بات کریں گے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت باتیں چل پڑتی ہیں، اور ہر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، لور اس کے نتیجے میں ہم لوگ بعض اوقات غضنوں باقون کمک اندرا جتنا ہو جاتے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے، اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، لذ اپنے تکلف کے ساتھ عربی میں بولنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ زبان جو بے محل اچل رہی ہے، یہ قابو میں آجائے گی، اور پھر بلا ضرورت فضول گفتگو نہ ہوگی، صرف ضرورت کی بات ہوگی۔

ہماری مثال

پھر حضرت میں صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھلی! ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے گھر سے بہت سدی اشرفیں بہت سدے پیے لے کر سفر روانہ ہوا تھا۔ اور ابھی اس کا سفر جاری تھا۔ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اسکی سدی اشرفیں خرچ ہو گئیں۔ اور اب چند اشرفیں اس کے پاس بلتی رہ گئیں، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنبھال کر لور پھونک کر خرچ کرتا ہے صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر

خرج کرتا ہے۔ فضل جگہ پر خرج نہیں کرتا ہے۔ تاکہ کسی طرح وہ اپنی منزل تک بچنے جائے۔

پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزندہ، لور عمر کے جو لحاظات اللہ تعالیٰ نے عطا کرائے تھے، یہ سب منزل تک بچنے کے لئے مل و دولت اور اشرفیں تھیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اور منزل کا راستہ ہمودہ ہو جاتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں، کن کن چیزوں میں اس کو خرج کر دیا، بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، مجلس آرلنی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سدی تو انہیں ان فضول چیزوں میں خرج ہو گئیں، اب پتہ نہیں کہ زندگی کے کتنے دن بلی ہیں، اب یہ دل چاہتا ہے زندگی کے ان اوقات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر استعمال کرے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں۔ ان کا پھر کسی حل ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان کی یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کروں، غلط جگہ استعمال نہ کروں۔

زبان کو قابو کرنے کا علاج

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو انبیاء علیهم السلام کے بعد سب سے افضل نہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ بے بیٹھے تھے، لور اس کو مروڑ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

افت هذَا اور دف المحساد

(موطالمام ملک کتب الکلام، باب ماجلو فی ما یحلف من النسان)

یعنی اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لئے میں اس کو قہو کرنا چاہتا ہوں، بعض روایات میں مروی ہے کہ اپنے منہ میں کنکر ڈال کر بیٹھ گئے، تاکہ بلا ضرورت زبان سے بات نہ لٹکے۔ بہر حال، زبان لگی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان جنت بھی کاملا کر سکتا ہے، اور دوسری بھی کاملا کر سکتا ہے، اس کو قہو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ بھی ہے کہ انسان کثرت کلام سے پرہیز کرے، اس لئے کہ انسان جتنا زیادہ کلام کرے گا، اتنا ہی زیادہ گناہوں میں جتلادی گا،

چنانچہ اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں، تو شیخ ہر ایک کے لئے اس کے منصب الگ الگ نسخ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لئے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

زبان پر تالہ ڈال لو

لیکھ صاحب میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، لیکن کوئی اصلاحی تعلق قائم نہیں کیا تھا، بس ویسے ہی ملنے کے لئے آجایا کرتے تھے، اور جب ہاتھیں شروع کرتے تو پھر رکنے کا ہم نہ لیتے، ایک قصہ بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دوسرا قصہ سنانا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہتے تھے، لیکھ روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ہماریں میں کیا پڑھا کروں؟ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ یہ کہ اس زبان پر تالہ ڈال لو، لور یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اس کو قابو میں کرو، تمہارے لئے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب زبان کو قابو میں کیا، تو اسی کے ذریعہ ان کی اصلاح ہو گئی۔

گپ شپ میں زبان کو لوگنا

ہمارے ہاں زبان کے غلط استعمال کی جو وبا جل پڑی ہے، یاد رکھو، یہ بڑی خطر ناک بات ہے، دوستوں کو بلا لیا کہ آنا ذرا بیش کر گپ شپ کریں گے اب اس گپ شپ کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت اس کے اندر ہو رہی ہے، دوسروں کی برائی اس میں بیان کی جا رہی ہے، دوسروں کی نقل اندی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک جگہ نہ جانے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے

اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے۔ آئین۔

خواتین اور زبان کا استعمال

یوں تو سدا معاشرہ اس زبان کے گنہوں میں جلا ہے لیکن احادیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیانوں کے پائے جائے کی نظر دی فرمائی، ان میں سے ایک بیان یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابوں میں نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرجب حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے خواتین! میں نے لال جنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا، یعنی جنم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ:

تکثیر اللعن و تکفیر الصثير

(مجموع بخاری، کتاب الحیض باب رُكْنِ الْعَصْرِ الصوم، حدیث ثبر ۳۰۲)

تم لعن طعن بست کرتی ہو، اور شوہروں کی ناشکری بست کرتی ہو، اس وجہ سے جنم میں تمدی تعداد زیادہ ہے۔ دیکھئے اس حدیث میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں یہاں فرمائیں، ان دونوں کا تعلق زبان ہے۔ لعنت کی کثرت اور شوہر کی ناشکری۔ معلوم ہوا کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر جن بیانوں کی تشخیص فرمائی، اس میں زبان کے بے جا استعمال کو یہاں فرمایا، کہ یہ خواتین زبان کو ملط استعمال کرتی ہیں، مثلاً کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو برآ کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھالی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔

میں لعنت کی ضمانت درستا ہوں

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمْنٌ لِلْجَنَّةِ۔

(مجموع بخاری، کتاب الرقائق، باب حفظ اللسان)

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لرشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی خناقت اور مگر نئی دے دے تو میں اس کو جنت کی مگر نئی رہتا ہوں، ایک اس چیز کی مگر نئی دے دے جو اس کے دو چیزوں کے درمیان ہے یعنی زبان کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی اس زبان سے جھوٹ نہیں لٹکے گا، غبہت نہیں ہوگی۔ دل آزاری کسی کی نہیں ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ اور ایک اس چیز کی خناقت دے جو اس کی دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا۔ تو میں اس کو جنت کی خناقت رہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ زبان کی خناقت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے۔ اور آدھا دین زبان کے اندر ہے آدھے گناہ زبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت ضروری ہے۔

تجالت کے لئے تین کام

عَنْ عَقِبَةِ بْنِ عَمَّرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَاتَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا
النِّجَاةُ ؟ قَالَ أَمْلَكَ عَلَيْكَ فَسَامِكَ، وَيَعْلَمُ بَيْتَكَ وَلِبَكَ
عَلَى خَطِيشَتْكَ۔

(ترفی، کتب الرذند، باب ماجاء فی حفظ اللسان، حدیث نمبر ۸۰۰)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یار رسول اللہ، تجلت کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے تجلت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرمادیں، اور جنت میں داخلہ فرمادیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں تین جملے ارشاد فرمائے، پہلا جملہ یہ لرشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو ایسے قابو میں رکھو، زبان بے قابو نہ ہونے پائے، اور دوسرا جملہ یہ لرشاد فرمایا کہ تمہارا اگر تمدنے لئے کافی ہو جائے، یعنی اپنا زیادہ وقت گھر میں گزرے، فضول اور بلاوجہ تحسیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر جاؤ، بلا ضرورت باہر مت جاؤ، تاکہ پاہر جو فتنے ہیں۔ ملن کے اندر جتنا نہ ہو جاؤ۔

گناہوں پر رو

اور تیرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلطی کوئی گناہ یا خطأ تم سے سرزد ہو جائے تو اس غلطی پر رو، رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے توبہ کرو، اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے استغفار کرو۔ رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر واقعہ رہے، جیسے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے رونا آتی ہے، اس لئے میں پریشان ہوتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر خود سے غیر اختیاری طور پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ پر دل سے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ واستغفار کرے، کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرمادیں۔

اے زبان اللہ سے ڈرنا

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُ أَدْمَرَهُ اللِّسَانُ الْأَعْضَادُ كُلُّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ تَقُولُ أَقْتَلَ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا يُخْنَى بِكُلِّهِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبَلُ أَسْتَقْبَلَنَا، وَأَنْفَقَ أَنْفَقْجَنَا.

(ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في حذف اللسان، حدیث نمبر ۲۲۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں۔ وہ سب زبان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے زبان، تو اللہ سے ڈرنا، اس لئے کہ ہم تو تیرے تالیع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو مبڑی ہو گئی تو ہم بھی مبڑی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا سدا جسم زبان کے تالیع ہوتا ہے، اگر زبان نے خلاط کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں سداے کام دیا جسم گناہ میں جتنا ہو جاتا ہے، اس لئے وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہتا ورنہ تیرے کرتوت کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔

اب کس طرح یہ اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً کہتے ہوں اس لئے کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو قوت گویاً عطا فرمادیتے ہوں، اور

اس کے نتیجے میں وہ زبان سے مفتگر کرتے ہوں، اس لئے کہ زبان کو بھی قوت گویاً اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو قوت گویاً عطا فرمائیں گے۔

قیامت کے روز اعضاء بولیں گے

گزشتہ زمانے میں "پھریت" کا بڑا زور تھا۔ اور یہ فرقہ پھریت کے لوگ مجرمات وغیرہ کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ توفیرت کے خلاف ہے کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مفتگر کریں گے۔ یہ کس طرح گواہی دیں گے؟ ان کے اندر زبان نہیں ہے، اور بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ ہتلہ کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ زبان بھی ایک گوشت کا گلڈا ہے، اس کے لئے الگ سے کوئی زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی بول رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اس لوٹھرے کو گویاً کی قوت عطا فرمادی، تو یہ بولنے لگی، اگر اللہ تعالیٰ اس قوت کو سلب کر لیں، تو بولنا بند کر دے گی۔ اور یہی گویاً کی قوت جب اللہ تعالیٰ ہاتھ کو عطا فرمائیں گے تو ہاتھ بولنے لگے لگا، پاؤں کو عطا فرمائیں گے تو پاؤں بولنے لگے گا۔

بمرحل، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح کے وقت اعضاء زبان سے اس طرح مفتگر کرتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک تمثیل ہو، کہ یہ سدے اعضاء چونکہ اس زبان کے تابع ہیں، اس لئے زبان کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو۔

بمرحل اس زبان کی حفاظت بست ضروری ہے، جب تک انسان اس پر قابو نہ پالے اور اس کو گنہوں سے نہ بچالے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے لور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین۔

وَاجْزُهُ دُعَوَاكَ أَمِنٌ الْحَمْدُ بِذِلِّهِ كَيْتَ الْعَالِيَّةُ

حضرت ابراءم علیہ السلام اور عمرہ بیت اللہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ظلیم



طبع و ترجمہ
معرب ناشرین

میمن اسلامک پبلیشورز

"دیاقت نیوڈیگری"

تاریخ خطاب : ۲۶ فروردی ۱۹۹۳ء

مقام خطاب : مسجد فاطمہ نزد حافظہ بڑی
ہاؤس، جیسا آباد

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلائی خطبات : جلد نمبر ۲

: صفات

یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ۔ انسانیت اور تاریخ۔ ادیان کا عظیم الشان واقعہ ہے عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مگر تعمیر کیا جا رہا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور

تعمیر بیت اللہ

الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغرك ونؤمن به ونتوكل عليه ونضرك باشره من شرورها فستاخون من میان اعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا و مولانا محمد ابده وسلم عليه، صل الله تعالیٰ علیه وعلی آلہ واصحابہ وہرسلت وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

امام مسجد فاعنونڈ ہاشم و میں الشیطان الرجیم، پیشہ اٹھو الرحمٰن الرحیم
کراؤ میں قع د ابراہیم القوادی میں اپنیت کراں سمعیں، رَبَّنَا تَعَالَى مَا إِنَّكَ أَنْتَ
الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَقَدْ وَمَنْ ذُرْتَ بِنَيَّاتِنَا أَمَّةٌ مُّشَاهِدَةٌ قَبَّ، وَ
آمَّةٌ مُّنَاسِكَنَاءِ كُبُّتْ عَذَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوْكِيدُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْنُكَ فَيَقُولُ
وَمَنْهُمْ يَتَلَوَّعُونَ بِأَمْرِكَ تَعْلِمُهُمُ الْكِتَبُ قَالِ الْحُكْمَةُ وَيَنْتَكِنُونَ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (ابقرہ : ۷۹-۸۰)

امنت بالله صدق اٹھ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الکریم
وخن على ذلك من المشاهدین والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔

بزرگان دین محترم و برداران عزیز !

یہ ہم سب کیلئے بڑی حیثیم سعادت اور خوش صیحی کا موقع ہے کہ
لہل جل شان نے ہمیں آج ایک مسجد کی تاسیس اور اس کی سکن بنیاد کی

سیارک تریب میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر مجھے سے فرائض کی بھی کہ کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، الحمد للہ اس سیارک میل میں میرے بہت سے بزرگ جو مجھے سے کہیں زیادہ علم و فضل اور فلاح و نعمتی کے حاملین ہیں، اسی ایجنس پر تشریف فرمائیں اور ان کی موجودگی میں مجھے ناکارہ کی لب کشانی ایک جمارت اور جرأت معلوم ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اپنے بزرگوں سے بھی یہ ناکہ جب کوئی بلا کسی بات کا حکم دے تو چھوٹے کا بھی کام ہے کہ اس حکم کی تعلیم کرے اس میں چوں و چدا کی مجال نہ ہونی چاہئے اس لئے تعلیم حکم کی خاطر یہ مشکل فریضہ انجام دے رہا ہوں کہ اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کیلئے بینا ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے لئی بات کرنے کی تشقیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مقابل ہو، اور اس سے مجھے اور منے والوں کو فائدہ پہنچے۔ آمين

دین کی جامیعت

میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر دین کی کون سی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ ہم اور آپ جس دین کے بیروکار ہیں اللہ جبار ک و تعالیٰ نے اس کو ایسا عظیم الشان بنایا کہ اس کا ہر گوشہ اس کا ہر پلو ایک مستقل موضوع ہانتے کے قابل ہے اور اس کیلئے ایک مستقل وقت درکار ہے۔

زفرق تاپہ قدم ہر کجا کری محروم
کرہے دامن دل ی کند کر جا لئے جا ات

دین کے ہر پلو کا حال یہ ہے جب اس کی طرف ٹاہ کی جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اسی کو موضوع خن بنایا جائے۔ اس لئے مجھے میں خیں آرہا تھا کہ کیا بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔

لیکن اس مسجد کی سمجھ بیاد کے عظیم الشان موقع پر شرکت کرتے وقت اور حصہ لیتے وقت خیال آیا کہ آج کی محکموں کا موضوع اسی مسجد کی تعمیر کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کو بناایا جائے جو ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان واقعہ بیان فرمایا ہے۔

تعمیر بیت اللہ کا واقعہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اسماعیل ذیقع اللہ علیہ السلام کی محیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بڑے بیگب و غریب اور بڑے والمانہ انداز میں بیان فرمایا اور پوری امت کیلئے قیام قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بنانے کیلئے اس کو بیشہ کیلئے حفظ فرمایا۔ اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بار بار تازہ کیا جائے خیال آیا کہ آج اس محفل میں مختصرًا ان آیات کی تہوڑی سی تعمیر اور اس دعا کی تہوڑی سی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کرتے وقت مانگی تھی۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے سے پہلے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

فَإِذَا مَيْدَقَ إِبْرَاهِيمَ الْعَوَادَ وَتَبَيَّنَتِ الْبَيِّنَاتُ قَالَ اللَّهُمَّ وَبِكَ

اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ اسلام بیت اللہ کی بیادوں کو بلند فرمائے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی (ان کے ساتھ شامل تھے) ”واذ“ یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا خالص اسلوب ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو باد آگے بیان کی جا رہی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مستحضر رکھا جائے

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بیت اللہ اکرچے پلے سے موجود تھا۔ اس کی بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم طی السلام کے وقت سے یہ دنیا کے اندر چلا آتا تھا لیکن مرور ایام سے اس کی عمارت موجود نہ رہی تھی۔ بنیادیں باقی تھیں۔ حضرت ابراہیم طی السلام نے ان بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمل میں ان کے ساتھ شریک تھے۔

مشترکہ کارنامہ کو بڑے کی طرف منسوب کرنا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معقول تھا کہ روزانہ جب قرآن کریم کی خلاوت فرمایا کرتے تھے تو خلاوت کے دوران ہی قرآن کریم کی آجھوں میں مدد بر بھی کرتے تھے۔ بھی کبھی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات خلاوت کے دوران ذہن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سامنے ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے ایک روز حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی خلاوت فرمارہے تھے، میں قرب بیٹھا ہوا تھا جب اس آیت سے پہنچی، "وَإِذْ يُرْفعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ" تو خلاوت روک گز بھج سے فرمایا کہ دیکھو: قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ چارک و تعالیٰ نے ایک محیب اسلوب اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ یوں بھی فرمائے تھے کہ "وَإِذْ يُرْفعُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ" (البقرہ ۱۲۷) یعنی اس وقت یاد کرو جب ابراہیم "اور اسماعیل" دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے لیکن اللہ چارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا، لیکن پلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیکر جملہ تکمیل کر دیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل "بھی"۔ اسماعیل علیہ السلام کا آخر میں علیحدہ ذکر فرمایا والد صاحب "نے فرمایا۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس

عمل میں یہ ایم کے شریک تھے۔ پتر الفاکر لارہے تھے اور حضرت ابراء بن علیہ السلام کو دے رہے تھے اور حضرت ابراء بن علیہ السلام ان پتوں سے بیت اللہ کی قیمت فرمائے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اس غیر کو برداہ راست حضرت ابراء بن علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا پھر والد صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا اور چھوٹا دونوں مل کر ایک کام انجام دے رہے ہوں تو ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کام کو بڑے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹے کا ذکر یوں کیا جائے کہ چھوٹا بھی اس کے ساتھ موجود قوانین یہ کہ چھوٹا اور بڑے دونوں کو ہم مرجب قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو یہ ایم منسوب کر دیا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ادب

اسی بات کو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ کے ذریعہ سمجھایا، فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معقول تو یہ تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے آپ فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد قصہ کمانیاں کہنا اور زیادہ فضول گوئی میں مشغول رہنا بھی بات نہیں ہے۔ تاکہ صحیح کی نماز پر اثر نہ پڑے لیکن ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت مددیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا دیکھئے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا تو یوں نہیں کہا کہ مجھ سے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے بلکہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ہے چھوٹے کا ادب کہ جب چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو تو وہ کام اپنی طرف منسوب نہ کر کے بلکہ بڑے کی

طرف غسوب کرے کہ بڑے نے یہ کام کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔

لہذا قرآن کریم نے بھی وہی اسلوب اختیار فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے یہاں تغیریت بیت اللہ کی اصل نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شامل کیا کیا۔ یہ تو ایک عکس تھا جو حضرت والد ماجد قدس اللہ سره کے حوالے سے یاد آگیا۔

عظمیں الشان واقعہ

غرض سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تغیری فرمائی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ انسانیت کا اور تاریخ ادیان کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت کا ہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی نہیں ہوا۔ اس کا اس لئے کہ یہ اللہ کا گھر تغیر کیا جا رہا تھا اس واقعہ میں ہے شمار تفصیلات تھیں، مثلاً یہ کہ پھر کہاں سے لائے گئے؟ کارہ کہاں سے جمع کیا گیا؟ کون پھر اپنا رہا تھا؟ کون چنانی کر رہا تھا کتنی بلندی پر تغیر کیا گیا؟ کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی؟ کتنا وقت اس تغیر پر لگا؟ کتنا روپیہ اس پر خرچ ہوا؟ یہ ساری تفصیلات تھیں لیکن قرآن کریم نے ان تفصیلات میں سے کوئی تفصیل ذکر نہیں فرمائی۔ بس اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغیر کر رہے تھے۔

اس کے بعد یہ بیان فرمایا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغیر کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان مبارک پر کیا دعا میں تھیں؟ وہ کیا الفاظ کہ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سارا عمل ایک طرف اور اس عمل کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی دعا میں

زبان مبارک پر حسیں۔ وہ ایک طرف، اللہ تعالیٰ کو سارے مل کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اس کو قیام قیامت تک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تغیر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر یہ دعا تھی:

تَبَّأْنَ تَقْبِيلَ مِنْتَانَكَ أَلْتَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ

”کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو اپنی فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمابلاشہ آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔“ جو بات اللہ رب العزت کو پسند آئی، جو ادا اللہ مبارک و تعالیٰ کو بھائی وہ یہ کہ کام تو انعام عظیم الشان انجام دے رہے ہیں کہ اس روئے نہیں پر اللہ مبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب پہلا اور آخری مگر تغیر کر رہے ہیں۔ جو قیامت تک کیلئے ساری انسانیت کے واسطے ایک مقنایتیں بننے والا ہے جس کی طرف لوگ سمجھ سمجھ کر جانے والے ہیں وہاں پر عبادتیں کرنے والے ہیں وہ بیت اللہ کہ جس کی بنیادیں نامعلوم ہو چکی تھیں وہ بیت اللہ جس کی تغیر فتح ہو چکی تھی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اخمار رہے تھے لیکن زبان اور دل پر کوئی تغیر نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی غور بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں اور اس کام کو انجام دیتے وقت سینہ تباہ ہوا نہیں ہے، مگر دن اکڑی ہوتی نہیں ہے اور کسی لکھ کے فخر اور سمجھ کے جذبات نہیں بلکہ دل میں یہ جذبات ہیں کہ یا اللہ میری خدمت اور یہ میرا عمل اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے، لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اے قبول فرمائیجئے۔

دل میں بڑائی نہ ہو

اس دعائیں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان اللہ کا بندہ ہے وہ خواہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو سکتی ہو یہی خدمت انجام دے رہا ہو، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ میں

کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں یا یہ کہ میں اللہ کے دین کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ میرا عمل میری ذات کے لحاظ سے تو اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ الجھا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اور اس ادھورے عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمادیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے یہ سبق سکھا دیا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑے بڑے کام جو شخص انجام دیتا ہے تو اس کا نفس اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو غفرنگ ابھارتی ہیں دوسروں کے سامنے شجاعت بھگارتے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی سنت سے یہ طریقہ تایا کہ اگر تم نے کوئی نیک کام کیا، اور اس نیک کام سے تمہارے دل میں کوئی غفرنگ اور سمجھنا ہو گیا تو وہ اس عمل کو ملایا میث کر دالے گا۔ اس کے بعد جب تم کوئی عمل کرو تو یہ سوچو کہ مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جیسا عمل پیش کرنا چاہئے تھا ویسا عمل پیش نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے آمین۔

فتح مکہ اور آپ کی اکھاری

حضور نبی کریم صرور دو عالم محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان سے کہ میں داخل ہو رہے تھے، کیس سال کی مخت کا شرہ کہ سکرہ کی فتح کی صورت میں سامنے آ رہا تھا اس کہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے جس میں رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائے، تکلیفیں دیئے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جہاں آخر پرست صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں، قتل کے منصوبے بنائے گئے، مسلمانوں کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتے کی پاداش میں قلم و ستم کا کوئی دیقتہ نہیں چھوڑا، اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ تنہ ہوا ہوتا، کردن آڑی ہوتی ہوتی اور ”انا ولا

غیری" کے نفرے لگتا ہوا داخل ہوتا، اور کہ مکرمہ کی گھیاں خون سے
لالہ زار ہو جاتیں۔ یعنی یہ رحمۃ اللعالیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر آج بھی اس طرح
یاد ہے، چیزے اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم معلیٰ کی طرف سے کہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنی اوثنی
 "دناۃ تصوی" پر سوار ہیں اور اوثنی پر سوار ہونے کی حالت میں گردن
 بھی ہوئی ہے یہاں تک کہ شہوڑی مبارک بینے سے گھی ہوئی ہے اور
 آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان مبارک پر یہ آیات ہیں۔

إِنَّمَا فَتَحْخَتَ الْكَفَّشَةَ مُبِينًا (سورة النجم ۱)

کہ یا اللہ یہ جو کچھ نصرت ہوئی یہ آپ ہی کی طرف سے ہے ہے میری
 قوت بازو کا کرشمہ نہیں یہ آپ کے فضل و کرم سے ہے کہ آپ نے
 مجھے فاتحانہ شان سے یہاں داخل فرمایا لہذا اب قائم کی شان یہ ہے کہ
 اس کی گردن تنے کے بجائے جنک جائے اور سیدہ مبارک سے لگ جائے
 انبیاء کرام علیهم السلام کی بیسی سنت حقی اور بیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔

توفیق منجانب اللہ ہوتی ہے

جب اللہ تعالیٰ کسی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو یاد رکھو یہ توفیق
 بھی اس کی طرف سے ہے، اگر عمل کی توفیق نہ ہوتی تو تم سے یہ کام
 بن نہیں سکتا تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اس خدمت پر
 کاریا۔

منت من کہ خدمت سلطان ہمیں کی
 منت شناس کر اورا بخدمت گزشت
 کہ یہ احسان کرنے کا موقع نہیں کہ میں نے بڑی نمائیں پڑھ
 لیں، میں نے بڑے روزے رکھ لئے، میں نے بڑا ذکر کر لیا، میں نے

بڑی عمارتیں انجام دے لیں، میں نے بڑی خدمت دین انجام دیں، میں نے بڑی کتابیں لکھیں، میں نے بڑی تقریبیں کیں، میں نے بڑے فتوے لکھے یہ کوئی فخر کی بات نہیں، ارے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایک ذرے سے جو چاہے کام لے۔ یہ دعا کرو کہ وہ یہی کام کرنے کی توفیق دے۔ اور جو کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر اللہ کا ہنگر ادا کرے اور اللہ کے سامنے اس کے قبولیت کی دعا مانگے کر اے اللہ! اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں جائے پس خود انسان کا کام ہے کہ تھوڑے سے عمل کی توفیق اللہ نے دے دی تو اس پر اترانے لگا، اس کے اوپر فخر و ناز میں جلا ہو گیا۔ اور لوگوں کے سامنے سمجھ کرنے لگا جیسے عربی زبان کی ایک مثال ہے کہ

صلوٰ الحاکم دکھتین وانتظر الوجی

ایک جولا ہے نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرے اوپر وحی نازل ہو، یہ سمجھ رہا ہے کہ دور کعت نماز پڑھنا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ مجھے براہ راست نبوت ملنی چاہئے تو یہ کم نظر اور کم خود انسان کا کام ہے۔ ایک بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا کام یہ ہے وہ ڈرتا رہے، کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ یہ کام تو اس کے شایان شان تو نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے کہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے

تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کو تعمیر کعبہ میں پسند آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائیتی کہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اتنا عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کوئی فخر نہیں، کوئی غور نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔

حقیقی مسلمان کون؟

اگرے دعا کا دوسرا حصہ محب و غریب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ

السلام بیت اللہ تھیر فرمائے تھے اس وقت دوسری دعا یہ فرمائی
ذکر بنتا واجبعتا مصلی علیہن السلام

اے پور دگار! ہم دونوں کو یعنی مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل
علیہ السلام کو مسلمان بنا دیجئے۔ اب یہ عجیب دعا ہے کہ کیا وہ مسلمان
نہیں تھے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل
علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا میں کون مسلمان ہو گا؟ لیکن دعا یہ
فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے بات اصل میں یہ ہے کہ عربی
زبان میں "مسلم" کے معنی ہیں: تابع دار، فرمانبردار، محکمہ والا آپ فرمایا
رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھکنے والا بنا
دیجئے تاکہ میری پوری زندگی اور میرے بیٹے کی زندگی آپ کے تابع
فرمان ہو جائے پوری زندگی آپ کی فرمان برداری میں گزر جائے، کیونکہ
ویسے تو آدمی ہی کلمہ پڑھتا ہے "اَشْهُدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهُدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" وہ مسلمان ہو جاتا ہے جاہے ستر برس کا کافر بھی کیوں
نہ ہو، لیکن صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا مومن کا کام نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کے
بعد پوری زندگی کو اللہ کے تابع فرمان بنائے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں
بنتا، اسی لئے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمْتُمُوا إِذْ خُلُوا فِي الْإِيمَانِ

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں
خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں کو جو پلے سے ایمان والے ہیں اسلام
میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ایمان والے اب کس میں داخل
ہو جائیں؟ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ ایمان لے آتا ایک عمل
ہے اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہونا دوسرا عمل ہے، اور اسلام کے
معنی یہ ہیں کہ اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنی لشک و برخاست کو،
اپنے تکر و انداز کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنائے جب تک یہ نہیں کرو
گے اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہو گے۔ تو حضرت ابراہیم طیب

اللام یہ دعا فرمائے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے بیٹے کو صحیح
محنوں میں مسلمان بنائیے یعنی اپنا تائیخ فرمان بنائیے

تغیر مسجد کا مقصد

یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس
آئت میں اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے — واللہ سبحانہ
اعظم — کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد تو بنا رہے ہیں اللہ کا مگر
تو تغیر کر رہے ہیں جو بہت بڑا عظیم الشان کام ہے لیکن یہ مسجد کی تغیر
درحقیقت ایک علامت ہے، مسجد کی تغیر بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ
مقصود یہ ہے کہ اس مسجد کی تغیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے
تائیخ فرمان بنا لیا جائے جب تک یہ نہ ہو گا تو محض تغیر مسجد تھا کافی نہیں
ایسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے ہیں کہ ہمیں اپنا جامع فرمان
اس طرح ہنا لجھتے کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے حکم کے مطابق
ہو جائے یہ ہیں مسلمین کے معنی اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر
وہ مسجد اس شعر کا مصداق بن جائیگی

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پالی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

مسجد تو بڑی عالیشان تغیر ہو گئی لیکن اس میں کوئی نماز پڑھنے والا
نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، اور خدا نہ کرے اور وہ کیفیت
ہو جائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی ساجدہ کے
پارے میں فرمایا کہ ”عمرۃ وحی خراب“ کہ مسہن باہر سے بڑی
لہجی، ”شاندار“ بڑی مزین، بڑی آرامت ہو گئی، لیکن اندر سے ویران
ہو گئی، اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہو گا۔ کہیں ایسا نہ ہو۔
اس لئے فرمایا اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ ساخت ساخت اپنا تائیخ فرمان

دین نماز اور روزے میں منحصر نہیں

بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں جاکر نماز پڑھ لی اور پانچ وقت حاضری دیدی۔ روزہ رکھ لیا اور زکوٰۃ ادا کر دی، عبادات انجام دے لیں بس ہو گئے مسلمان۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کے اندر جاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمانس پڑھنا، ذکر کرنا یہ سب بھی دین کا حصہ ہیں۔ لیکن ایمان نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک مسجد میں ہیں تو مسلمان ہیں نمانس بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، عبادات بھی انجام دی جا رہی ہے۔ لیکن جب بازار میں پہنچے تو وہاں سارے معاملات اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دفتروں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، حکومت کے ایوانوں میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں، بس دین نام رکھ لیا عبادتوں کے انجام دینے کا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، اللہ اللہ خیر سلا، یاد رکھو! دین درحقیقت پانچ شعبوں کا مجموعہ ہے۔ عقائد کی درستی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق ان سب کے مجموعے سے اسلام بتتا ہے، اسلام یہ نہیں کہ مسجد میں تو مسلمان ہیں مگر میں جاکر کافر ہو گئے (معاذ اللہ) مسلمان وہ ہے جو پورا کا پورا مسلمان ہو، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا

يَا أَيُّهَا الْذِينَ آتُوكُمْ مِّا أَذْهَلُوكُمْ فَإِذَا كُلُّ مُحْمَّدٍ

اے! ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ بس مسجد میں چلے گئے، اور عبادات بھی کر لیں مگر معاملات خراب، معاشرت خراب، اخلاق خراب، یہ ساری چیزوں اسلام میں

داخل ہونے کیلئے ضروری ہیں۔

مسجد کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کو مسجد میں جاکر
تجدد کر رہے ہو بازار میں بھی جاکر اسی کے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ فرمیں
کہ مسجد میں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ یہ فرمیں کہ
نماز پڑھنے کے بعد سو دکھالیا بلکہ اخلاق و معاشرت کو بھی شریعت کے
مطابق بنالو، ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب عقانوی
رحمۃ اللہ علیہ کے مفہومات اس بات سے بھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح
عبادت ضروری ہے اسی طرح معاشرت درست کرنا بھی ضروری ہے،
اخلاق درست کرنا بھی ضروری ہے، اور معاملات درست کرنا بھی
ضروری ہیں۔ آج کی دنیا اس بات کو فراموش کر بیٹھی ہے اور دین
صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے یہ غلط فہمی دور کرنی چاہئے۔

اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے ۔

پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ

وَمِنْ ذُرَيْدَتَنَا أُمَّةٌ مُّنْلِمَةٌ لَّهُ

اے اللہ ہماری آئے والی نسل کو بھی مسلمان بنائیے، اس کو بھی
اپنے تابع فرمان بنائیے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک
مسلمان کا کام صرف خود مسلمان بن کر جسم فرمیں ہوتا، اس کے فرائض
میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی تحریر کرے، آج ہم مسلمانوں
کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند، صاف اول کے
پابند، حلاوت قرآن کے پابند، لیکن ان کے ذہنوں میں کبھی یہ خیال فرمیں
آتا کہ اولاد کماں جاری ہے اولاد تحریر سے الحاد کے راستے پر، یہ
دینی کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے راستے پر، جسم کے
راستے پر جاری ہے لیکن کبھی خیال فرمیں آتا ہے کہ ان کو کس طرح بچایا
جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ
کر دیا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں بلکہ قرآن کریم کا

ارشاد ہے کہ :

لَمَّا يَهُقِّدُهَا الْذِيْنَ اَمْتَوْا فَوْا اَصْفَكْتُهَا وَأَهْبَيْكُمْ نَاسًا

اے ایمان والو ! اپنے آپ کو بھی گھر سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیویوں کو بھی بچاؤ جس طرح خود مسلمان بننا فرض اسی طرح آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی لگر کرنا بھی فرض ہے

آگے فرمایا:

وَتُبْتَعَلِّيْتَ اَنْكَدَ اَنْكَدَ النَّوَابَ الرَّجِيمَ

یہ فرمایا کہ اس عمل پر مجھے ثواب عطا فرماء اس لئے میرا یہ عمل ثواب کے لائق تو کیا ہوتا بلکہ خطرہ یہ ہے کہ میرے اس عمل میں کس قسم کی کوتاہیاں شامل نہ ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے یہ عمل غارت ہو جائے، اے اللہ اگر ایسی کوتاہیاں ہوتی ہوں تو ہماری توبہ قبول فرمائے

یہ بھی عمل کی توفیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کوتاہیاں ہوتی ہوں اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے کام ہے مومن کا۔

نماز کے بعد استغفار کیوں ؟

حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صرور دو عالم مصلی اللہ علیہ وسلم نماز نئے فارغ ہوتے تو نماز فتح ہوتے ہی آپ تمن مرتبہ فرماتے تھے 'استغفر اللہ'، 'استغفر اللہ' اب یہ اس وقت استغفار کرنا سمجھو میں ہیں آتا۔ اس لئے کہ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو بظاہر نماز کے بعد استغفار کا موقع نہیں، بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے، اس کے بعد استغفار کیوں ؟ بات دراصل یہ ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی گمراہ

اللہ چارک و تعالیٰ کی ذات کبریٰ کا جو حق تھا وہ نماز میں ادا نہ ہوا
”ما ہبندنال حُقْ عبادتک“

اے اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے، تو نماز کے بعد یہ استغفار اللہ اس واسطے ہے کہ جو حق تھا وہ تو ادا ہوا نہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کوتاہیوں کو دور فرمائے، قرآن کریم میں بھی نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں باری تعالیٰ نے فرمایا

شَافِعًا قَدِيلًا وَتَ الْمَيْلَ مَا يَمْهُجُونَ وَ قِبَالَ الْمُحَارِضَةِ شَفِيرُونَ

اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، پوری رات عبادت میں گزاری، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کونا استغفار کا موقع ہے؟ ساری رات تو عبادت کرتے رہے کوئی گناہ نہیں کیا، جو استغفار کرسی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: درحقیقت وہ اس بات پر استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عبادت رات کو کی ہے وہ اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ اس واسطے اے اللہ ہم ان کوتاہیوں سے استغفار کرتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہوئیں تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ جو نیک عمل بھی کرے نیکی کے جس کام کی جو توفیق ہو اس پر غور میں جلا ہونے کے بجائے اس کی کوتاہیوں پر استغفار کرے۔ اللہ چارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کی تقویت کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

جامع دعا

پھر یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد آخر میں یہ زہر دست دعا فرمائی:

وَبَتَّا وَابْعَثْتُ فِيهِ رَسُولًا وَنَهْرًا يَشْفَعُ عَلَيْهِ مَا يَا قَدْ وَمُبَرَّأَتُهُ
الْكِتَابُ وَالْحُكْمَةُ وَمِيرَجُهُ تَبَوَّءُ.

کے لئے پروردگار یہ کعبہ تعمیر کر لینا کافی نہیں اے اللہ ہو کعبہ
کے پاس رہنے والے ہیں ان میں اپنے فعل و کرم سے ایک ایسا رسول
بھیجنے جوان کے سامنے آپ کی آنحضرت کی حلاوت کرے۔ اور ان کو
کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور ان کا تذکیرہ کرے اور ان کو پاک
صاف کرے، ان کے اخلاق ان کے اعمال پاک صاف کرے۔

یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمادی
رہے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے سختے مگر دوبارہ
تعمیر ہو جائیں سختی ساجد بن جائیں۔ لیکن یہ سبھ اس وقت تک اپنے
مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اس لئے حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ
تعمیر آپ کی آنحضرت کی حلاوت کرے اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ
آیات کی حلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا
بذات خود ایک انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ تعمیر صرف
حلاوت نہیں کریگا۔ بلکہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیگا۔

قرآن کیلئے حدیث کے نور کی ضرورت

اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ کتاب یعنی قرآن محض
مطالعہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے
حاصل کر لیں، آج کل قرآن کی اشیڈی کرنے کا بڑا رواج ہے، صرف
اشیڈی کے ذریعہ اس کو حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس
لئے اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن خود بیٹھ کر اشیڈی کرنے کی
چیز نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسکو

خیں پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے اس
لئے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ
تَقْذِيْجَةً كُنْدَةً تَبَتَّ اَهْلَهُ مُؤْمِنُوْ وَكَلِّبُهُ مُنْبِيْنُ

فرمایا کہ جیسے آپ کے پاس ایک کتاب ہو لیکن روشنی نہ ہو
اندھیرا ہو، اب کتاب تو موجود ہے لیکن روشنی کے بغیر آپ اس کتاب
سے فائدہ خیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حسین اشارہ فرمایا کہ
تمہارے پاس ہم نے کتاب بھی بھیجی اور اس کے ساتھ اس کتاب کو
پڑھ کر سمجھنے والا نور بھی بھیجا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا
نور ہے اس کی روشنی میں پڑھو گے تو کامیابی حاصل ہوگی اس سے ہٹ
کر اگر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ اندھیرے
میں کتاب پڑھنے والا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں پھر آخر میں فرمایا کہ وہ
پیغمبر تعلیم پر ہی اکتفا نہیں کریگا، بلکہ ان کو غلط اخلاق سے قلط اعمال سے
صاف کریگا انکا تزکیہ کریگا اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ تعلیم بھی
زبانی کافی نہیں بلکہ اس کیلئے تربیت اور محبت کی ضرورت ہوگی جب
تک کہ یہ نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے اعمال اور اخلاق صحیح
معنوں میں درست نہیں ہونگے بہرحال، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ
السلام نے جو دعائیں تغیر کعبہ کے وقت مانگی تھیں یہ اس کی تحویلی سی
تسلیل تھی، اس دعا میں پورا دین سامگیا ہے دین کے سارے شعبے اس
کے اندر آگئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق
عطای فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کی
تعمیر اور اس کی تاسیس کی برکت عطا فرمائے اس کے حقوق ادا کرنے کی
توفیق عطا فرمائے آمين۔

وَالْآخِرَةَ نَعَوْنَا مَا أَبْرَىْتَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَهُوَ سَمِيتُ الْعَالَمِينَ

وقت کی قدر کریں

شیخ الاسلام اخیرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سبب علم



طبع و ترتیب
متعبدانہ شرکت

میمن اسلامک پبلیشورز

"ریاقت تبلیغ کاری"

تاریخ خطاب :

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلائی خطبات : جلد نمبر ۳

صفحات :

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت اور بے وقعت چیزوں کو اس کو جمل چاہا ضائع کر دیا بپاک کر دیا کوئی قدر و قیمت نہیں، سختے دن میئنے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات میں گزر رہے ہیں۔ جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بد لیں۔ اور زندگی کے حقیقی لمحات کو کام میں لگائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقت کی قدر کریں

الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونوعذ بالله من شرور انساناً ومن سیفات اعماقنا، من يهدى الله فلامضى له، ومن يضل الله فلما هادى له، وآشید انت لا الا الله الا الله وحدة لا شريك له، وآشید ان سيدنا ونبينا و مولانا محمد اخبدنا رسوله، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وناسك وسلم تسليماً كثيراً - اما بعد:

عن ابن عباس رضوا الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: نعمتان مغبوت فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.

(بخاري، کتب الرقائق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، حدث نمبر ٢٠٣٩)

حضرت عبد الله بن مبارک رحمه الله تعالى
جیسا کہ میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ ”ریاض الصالحین“ کی تحریک کے بعد

انشاء اللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لئے آج اللہ کے
تم پر حدیث کی دوسری کتاب شروع کی جلدی ہے۔ اللہ جادک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم
سے اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمين۔

یہ کتاب ایک بست بڑے امام، فقیہ، محدث، صوفی، مجدد حضرت عبد اللہ بن
مبدک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جس کا نام ”كتاب الزہد والرقة“ ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں، جن
کا نام آتے ہی دل میں عقیدت و محبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں پہلے
بھی ان کے کئی واقعات بیان کرتا رہا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کی
پیدائش غالباً دوسری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے، گویا کہ یہ اس زمانے کے بزرگ
ہیں جبکہ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے رسول ہوئے
تھے، صحابہ کے نام۔ حدیث شریف کی جو چھ مشور کتابیں، بخلدی شریف سے لے
کر ابن ماجہ تک ہیں۔ ان سب سے متقدم اور ان سب کے بزرگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی ہیں۔ اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے
بزرگ ہیں۔ جب عالم اسلام ان بڑی بڑی علمی شخصیتوں سے جگ مکار ہاتھا۔ اس زمانے
کے جس خطے کو دیکھتے۔ اس میں بے نظر شخصیتیں موجود تھیں۔ اور یہ عبد اللہ بن
مبدک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شرمندوں میں پیدا ہوئے، اور پھر جاکر عراق کے شربندروں
میں آباد ہوئے، اور وہیں قیام کیا۔

آپ کی اصلاح کا عجیب و غریب واقعہ

ان کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان بزرگوں کے ذکرے میں بھی
بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ شاید ان کا یہ قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی
سنا یا ہو گا کہ یہ امیر کیر گھرانے کے ایک فرد تھے۔ اور خاندانی رئیس تھے۔ حضرت شہزاد
عبد العزیز محدث دھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا

ہے کہ ان کا لیک بہت بڑا سب کا بلغ تھا۔ اور جس طرح امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی آزاد منش تھے، نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پہنچنے والے اور گانے بجائے والے تھے، ایک مرتبہ جب سب کاموسم آیا تو یہ اپنے لال دعیل سیست اپنے بلغ ہی میں منتقل ہو گئے، تاکہ وہاں سب بھی کھائیں گے۔ اور شرے باہر ایک تنقیح کی فضا ہو گئی، چنانچہ وہاں جا کر مقام ہو گئے۔ دوست و احباب کا حلقة بھی بڑا دسج تھا۔ اس لئے وہاں پر دوستوں کو بھی بلا لیا۔ رات کو بلغ کے اندر گانے بجائے کی محفل جی، اور اس محفل میں پہنچنے پلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیقی کا آہ رباط کے بجانے کے بہت مہر تھے، اور اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے۔ اب ایک طرف پہنچنے پلانے کا دور اور اس کا نشہ، اور دوسری طرف سے موسیقی کی تاریخ، اسی نشہ کے علم میں ان کو نہیں آگئی۔ اور وہ ساز اسی حالت میں گود میں پڑا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کھا کر وہ ساز گود میں رکھا ہوا ہے، اب انھ کراں کو دوپدھ بھالا شروع کیا تو وہ ساز اب بجا ہی نہیں۔ اس میں سے آواز ہی نہیں آری تھی۔ چونکہ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کرنے کے لیے بھی تھے، اس لئے اس کے تار درست کر کے مرمت کی پھر بجائے کی کوشش کی۔ مگر وہ پھر نہیں بجا، دوپدھ اس کے تدو خیرہ درست کئے۔ اور بجائے کی کوشش کی تواب بجائے اس میں سے موسیقی کی آواز نہ لئنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آری تھی۔ وہ یہ کہ

آَتَهُ يَأْنِتْ بِلِلَّذِيْنَ هُنَّاَتْ تَعْلِمُونَ هُنَّاَتْ تَعْلِمُونَ هُنَّاَتْ كُلُّ مُؤْمِنٍ
وَمَا مَأْمَلُ مِنَ الْعَيْقَ.

(سورة الحمد: ۱۶)

قرآن کریم بھی عجیب عجیب انداز سے خطاب فرماتا ہے؛ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لئے بچیجے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر آتی ہے۔ اس کے لئے ان کے والوں میں کذاز پیدا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟

ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آواز اسی ساز میں سے آری تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس جگہ وہ پیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا

تحا۔ اس پرندے کے منہ سے یہ آواز آری تھی۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لیکن نبی الطیفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو قواز نامنثور تھا۔ بس، جس وقت یہ آواز سنی۔ اسی وقت دل پر چوٹ گئی، اور خیال آیا کہ اب تک میں نے اپنی عمر کس کام کے اندر گنوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا:

بلنی یا سب قد آن۔ بلن یا سب قد آن

اے پروردگار، اب وہ وقت آئیا

لب میں اپنے ان سدے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تاہوں۔ چنانچہ یہ سدے دھنے چھوڑ کر ہمہ تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت بھی ساز و رباط کی محفلیں جبی ہوئی ہیں۔ پہنچنے پڑنے کا مشغله ہو رہا ہے۔ اور کہاں یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب کے مولف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کی گرد نیس ان کے احشائات سے جھکی ہوئی ہیں۔

(بستان المحدثین ص ۱۵۵)

علم حدیث میں آپ کا مقام

اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے علاوہ پر تنقید کی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ علیہ لور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بچے۔ بڑے بڑے ائمہ تنقید سے نہیں بچے۔ لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا۔ جس نے عبد اللہ بن مبارک کی روایت اور حدیث کے بدے میں ان پر تنقید کی ہو، اتنے اونچے درجے کے حدیث ہیں۔

دنیا سے آپ کی بے رغبتی اور کنارہ کشی

اور پھر دنیا سے اپنے آپ کو ایسا کہا، اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے

کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خانہ انی رہیں اور امیر کبیر آدمی تھے۔ اس لئے حالات میں وہ تبدیلی کے بعد بھی ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر دس دس دس پندرہ پندرہ قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت بردا جمع موجود ہوتا تھا۔ لیکن سدے مجع کھانے میں مشغول ہوتا تھا۔ مگر یہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور لوگوں کو بلا بلا کر کھلنے کی دعوت دیتے، اور ان کی حاجتیں پوری کرتے۔

حدیث رسول کا مشغلہ

خراسان کے شرمندوں یہ پیدا ہوئے، وہاں پر ان کا جو مکان تھا۔ اس کے بدے میں لکھا ہے کہ اس مکان کا صرف صحن پچھاں گز لسیا پچھاں گز چوڑا تھا۔ وہ پورا مسح اہل حاجت سے بھرا رہتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آرہا ہے۔ تو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے آرہا ہے۔ کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لئے آرہا ہے۔ پھر بعد میں جب بغداد میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے لیک چھوٹا سا گھر خرید لیا، اور اس میں کہاں کی زندگی بسر کرنے لگے، تو کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت، آپ پہنچا عالیشان مکان چھوڑ کر یہاں بغداد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے ہیں، یہاں آپ کا دل کیسے لگتا ہو گا؟ جواب میں فرمایا کہ الحمد للہ، یہاں میرا دل زیادہ لگتا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لوگ میرے پاس بست آیا کرتے تھے۔ اور اب میں تخلیٰ کی زندگی گزارتا ہوں۔ بس مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اور وہاں میں ہوتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یعنی گھر میں دن رات احادیث رسول اللہ کا مشغلہ ہے۔ اس میں مصروف رہتا ہوں، یہ زندگی مجھے بست زیادہ پسند ہے۔
(تاریخ بغداد: ۱۰۲/ ۱۵۲)

لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت اور محبت

بغداد کا ایک شہر تھا۔ جو اب بغداد ہی کا ایک محلہ بن گیا ہے، ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون اس شہر میں اپنی والدہ یا یوی کے ساتھ شہری بر جے

میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس نے ریکھا کہ شہر کی فصیل کے باہر ایک شور بلند ہو رہا ہے، ہارون رشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی غصہ چڑھ آیا ہے، معلوم کرنے کے لئے فوراً آدمی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مبدک رضہ شریں تشریف لائے ہیں۔ اور لوگ ان کے استقبال کے لئے جو ق در جو ق شر سے باہر نکلے ہیں۔ یہ اس کا شور ہے۔

اور میرے اپنے والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے سنا کا استقبال کے دوران حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمہ اللہ کو چھینک آگئی تھی، اور اس پر انہوں نے "الحمد للہ" کہا، لور ان کے جواب میں پورے جمع نے "يرحمك الله" کہا، اس سے یہ شور بلند ہوا۔ جب ہارون رشید کی بیوی نے یہ صورت حال دیکھی تو ہارون رشید سے کہا کہ ہارون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے پادشاہ ہو، اور آدمی دنیا پر تمہاری حکومت ہے۔ لیکن چیز بات یہ ہے کہ بادشاہت تو ان لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو سمجھ کر یہاں نہیں لائی ہے، بلکہ یہ صرف حضرت عبد اللہ بن مبدک کی محبت ہے، جس نے اتنے سدے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔
(تمذیغ بغداد: ۱/۱۵۶)

آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ

اللہ تعالیٰ نے دولت اور دنیا کی نعمتیں بت دیں۔ مگر وہی بات تھی کہ دنیا تو عطا فرمائی، لیکن دل دنیا کی محبت سے خالی رکھا، یہ جو کسی نے کہا ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجہ عطا فرمائی کہ اس کی مثالیں ملنی مشکل ہے۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، جب بستی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو بستی کے لوگ ایک وفد بنا کر ان کے پاس آگئے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو جائیں گے، تاکہ حج کے اندر آپ کی محبت میر ہو، انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، البتہ تم سب لپا لپا سفر کا خرچ میرے پاس جمع کراؤ، ماکہ میں تم سب کی طرف سے

اک خارج کرتا ہوں۔ چنانچہ جتنے لوگوں نے جانے کا درادہ کیا ان سب نے اپنے پیسوں کی تسلی لا کر حضرت عبد اللہ بن مبدک کے پاس جمع کراوی، انہوں نے وہ سدی تسلیلیں لے کر ایک مندوق میں رکھ دیں۔ اور اس کے بعد سفر برداشت ہو گئے، چنانچہ تمام ساقیوں کی سواری اور کھانے کا انتظام وغیرہ کرتے رہے، یہاں تک جم مکمل ہوئے کے بعد ان سب کو مدینہ منورہ لے گئے۔ اور وہاں جا کر ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ ہماری تمدّے گمراہوں نے مدینہ منورہ سے کیا چیز مغلوبیٰ تھی؟ چنانچہ ہر ایک کو پہاڑ لے جا کر وہ چیز دلوادی۔ پھر والہیں مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہاں آگر پھر ہر ایک سے پوچھا کہ تمدّے گمراہوں نے مکہ مکرمہ سے کیا چیز لائے کو کہا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ فلاں چیز مغلوبیٰ تھی، چنانچہ ایک ایک فرد کو پہاڑ لے جا کر وہ چیز دلوادی۔ پھر والہیں سفر کر کے جب خراسان پہنچے تو وہاں سب کی عالیشان دعوت کی، اور اس دعوت میں ہر ایک کو حقنے بھی پیش کئے، اس کے بعد وہ مندوق کھولا جس میں جاتے وقت ہر ایک کے پیسوں کی تسلی رکھی تھی، اور ہر ایک کو اس کی تسلی واپس کر دی۔ اس طریقے سے سخوت کے دریا بھائے۔

(سر اعلاء النبلاء: ۳۸۵/۸)

آپ کی سخوت اور غرباء پروری

ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جم کو جلد ہے تھے، ایک قافلہ بھی ساختہ تھا، راستے میں ایک جگہ پر قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی۔ قافلے والوں نے وہ مرغی اخاکر کوڑے کے ذمیر میں پھینک دی۔ حضرت عبد اللہ بن مبدک قافلے والوں سے ذرا بیچھے تھے۔ انہوں نے وکھاکر قافلہ والے تو اس مردہ مرغی کو پھینک کر چلے گئے، اتنے میں قریب کی بستی سے ایک لڑکی لٹلی، اور وہ تیزی سے اس مردہ مرغی پر جھپٹی، اور اس کو اخاکر لیک کپڑے میں لپیٹا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گمراہی گئی۔ عبد اللہ بن مبدک یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بت جی ان ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رفتہ کے ساتھ اخاکر لیجا نے ولی لڑکی کون ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مبدک بستی میں اس لڑکی کے گمراہ گئے۔ اور پوچھا کر وہ کون ہے؟ اور اس طرح مردہ مرغی اخاکر کیوں الگی ہے؟

جب بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ یوہ ہے۔ میں تمہاروں۔ اور لڑکی ذلت ہوں۔ اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چنانچہ اس کو زنے کے ذمہ میں جو کوئی مردار پھینک دتا ہے۔ ہم اس کو کھا کر گزارہ کر لیتے ہیں۔

- بس یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن مبدک کے دل پر چوتھی، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں حج پر جلد ہوں، چنانچہ اپنے معلوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس شاید دو ہزار بیل ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے لئے جتنے دندر کی ضرورت ہے۔ تقریباً ہمیں ونڈر، وہ رکھ لو، اور بلق سب اس لڑکی کو دے دو، تو راں سل ہم حج نہیں کرتے، تو راں دندروں سے اس کے گھروں کو جو قائدہ ہو گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حج سے زیادہ اجر و ثواب اس پر عطا فرمادیں گے۔ یہ کہہ کر واپس چلے گے۔

غرض یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ ایسے ایسے بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

آپ کی دریا دلی کالیک اور واقعہ

ایک اور واقعہ یاد آیا، جب کبھی یہ رقد شر میں جایا کرتے تھے تو ایک نوجوان ان سے آکر ملا کرتا تھا۔ اور آکر کبھی سائل پوچھتا۔ کبھی دوسری باتیں آکر پوچھتا، ایک مرتبہ جب رقد شر جانا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا۔ اور نہ اس نے آکر ملاقات کی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو یہی شر ملاقات کیا کرتا تھا۔ وہ نظر نہیں آرہا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بست ہو گیا تھا۔ اور جس شخص کا قرضہ تھا۔ اس نے اس کو گرفتار کر دیا ہے، اس نے جیل میں ہے۔ ان کو بڑا دکھ ہوا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہو گیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وس ہزار بیل، پھر معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کا قرضہ تھا، چنانچہ آپ اس

شخص کی تلاش میں لکھے، اور پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچے۔ اور جا کر اس سے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے۔ تمہارا قرضہ اس کے ذمے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ میں وہ قرضہ تمہیں ادا کر دتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ یہ کہ میرے سامنے وعدہ کرو۔ اور تم کھلاؤ کہ میرے جیتے ہی اسکو یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ قرضہ کس نے ادا کیا ہے، چنانچہ اس نے تم کھالی کہ میں نہیں بتاؤ گا، چنانچہ آپ نے دس ہزار روپے اس کو دے دیئے اور اسے کہا کہ اب اس کو رہا کر ا دو۔ چنانچہ اس نے جیل جا کر اس کو رہا کرا دیا۔

جب وہ نوجوان جیل سے رہا ہو کر شہر میں آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چند روز سے حضرت عبد اللہ بن مبدک یہاں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے کب لکھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی لکھے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان آپ کے پیچے دوڑا، اور راستے میں آپ کو پکڑ لیا۔ حضرت عبد اللہ بن مبدک نے فرمایا کہ میں نے ساتھا کہ تم جیل میں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں جیل میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمادی انسوں نے پوچھا کہ کیسے لکھے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اس لئے مجھے رہائی مل گئی۔ عبد اللہ بن مبدک نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لئے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرمادے۔

وہ نوجوان بعد میں کہتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میرا قرضہ ادا کرنے والے عبد اللہ بن مبدک ہیں، اس لئے کہ اس شخص نے عبد اللہ بن مبدک کے سامنے قسم کھلائی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں اس کے پدرے میں کسی کو نہیں بتاؤ گا، لیکن جب عبد اللہ بن مبدک کی وقت ہو گئی، اس وقت اس شخص نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب در حقیقت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔

(تاریخ بغداد: ۱۰/ ۱۵۹)

کتاب الزہد والرقائق

بمر حل۔ یہ اس مقام کے بزرگ ہیں کہ ہمیں ان کا ہم لیتے ہوئے بھی شرم

آتی ہے۔ یہ کتب جو ہم آج شروع کر رہے ہیں یہ انہیں کی تکمیلی کتاب ہے۔ جس کا نام ہے ”کتاب الزہد والرقائق“ یعنی ان احادیث کا مجموعہ ہے۔ جن میں نبی کریم صرور دو عالم مصلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جن کو پڑھنے سے دنیا کی بے رغبتی لور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور ”رقائق“ کے معنی وہ احادیث جن کے پڑھنے سے قلب میں گداز اور رفت پیدا ہوتی ہے۔ دل نرم ہوتے ہیں، غفلت دوڑ ہوتی ہے، ایسی احادیث کو ”رقائق“ یا ”رقاق“ کہا جاتا ہے۔ تقریباً تمام محدثین ایسی احادیث پر ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ان احادیث پر یہ مستقل کتاب لکھے دی ہے، ویسے ”کتاب الزہد“ کے نام سے دوسرے محدثین نے بھی کتابیں تکمیلی ہیں۔ مثلاً امام وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، امام حمد بن خبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ، ان سب کی کتابیں اس موضوع پر اس نام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب سب سے زیادہ اس لئے مشور ہوئی کہ اول توبیہ محدثین میں سے ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی تھی، اس لئے خیل ہوا کہ ان کی یہ کتاب شروع کی جائے، کیا بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں کچھ نری پیدا کر دے، یہ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھلائی ہوتی ہے، اس کے بد لے اللہ تعالیٰ آخرت کی کچھ فکر عطا فرمادیں۔ آمین۔

دو عظیم نعمتیں اور ان سے غفلت

اس کتاب میں احادیث بھی ہیں۔ اور صحابہ و تابعین کے کچھ آثار اور واقعات بھی ہیں۔ پہلی حدیث وہ مشور حدیث ہے، جو حضرت عبد اللہ بن عربی رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”فَعِتَانَ مُغْبُوتٍ فِيمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ“

(بخاری، کتاب الرقاائق، باب مجاهد فی الصحة والفراغ ص ۷۰۳۹ نمبر ۶۰۳۹)

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بست سے لوگ ان کے بد بے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت اور تکریسی ہے، اور دوسری

نعت فراحت اور فرصت ہے یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں، اس وقت تک انسان اس دھونکے میں پذیر ہتا ہے کہ یہ نعمتیں بھیشہ ہلتی رہیں گی، چنانچہ جب تک تند رستی کا زمانہ ہے، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیداری آئے گی۔ یا فراحت کا زمانہ ہے، اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمادیتے ہیں وہ یا فراحت عطا فرمادیتے ہیں یا فراحت کا زمانہ ہے، اور اجھے کاموں کو خاتما رہتا ہے، اور یہ سوچ تارہ ہتا ہے کہ بھی تو بست وقت پڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پوچھان لو، جب یہ حاصل ہوں۔

صحت کی قدر کرو

یہ صحت کی نعمت جو اس وقت حاصل ہے، کیا معلوم کہ کب تک یہ حاصل رہے گی، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت بیداری آجائے، اور کیسی بیداری آجائے، لہذا ایسکی اور خیر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی نظر کو اسی زمانے کے اندر اختیار کرو، کیا پڑھ پھر موقع ملے یا نہ ملے، لرسے جب بیداری آتی ہے تو پسلے نوش دے کر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اچھا خلاصہ چنگا بھلا تند رست انسان ہے مگر بیٹھے بیٹھے کسی بیداری کا حملہ ہو گیا۔ اور اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں، اس لئے یہ زمانہ ملا کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرنا ہے، وہ کر گزرو، یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لئے عطا فرمائی ہے کہ اس کو اس عالم کے لئے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آئے والا ہے، لیکن اگر تم نے اس صحت کو گنوادیا۔ اور بیداری آگئی، تو پھر عمر بھر سر پکڑ کر رو گے، اور حسرت اور افسوس میں جھلکار ہو گے کہ کاش، اس صحت کے عالم میں کچھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہ ہو گا، اس لئے ان نعمتوں کی قدر کرو۔

صرف ایک حدیث پر عمل

یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے یہ "جواں الکلم" میں سے ہے، اور غالباً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر نہ لمان صرف ان چند حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کی نجات کے لئے کافی ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں "کتب الرقق" کو اس حدیث سے شروع فرمایا ہے، اس لئے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے سے تنبیہ فرمائی ہے ہیں۔ بعد میں تنبیہ تو خود ہو جاتی ہے، لیکن وہ تنبیہ اس وقت ہوتی ہے، جب تذارک کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر مل باپ سے زیادہ شفیق ہیں، اور ہماری نفیات اور رگوں سے واقف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس وقت جو تمیں سخت اور فراحت کا جو عالم میرے ہے۔ پھر بعد میں رہے یا نہ رہے۔ اس سے پہلے کہ حسرت کا وقت آجائے۔ اس کو کام میں لگالو۔

"ابھی تو جوان ہیں" شیطانی دھوکہ ہے

یہ "نفس" انسان کو دھوکہ دتاتا ہے کہ میں۔ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ذرا ازے اڑالیں۔ پھر جب موقع آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وقت اصلاح کی فکر کر لیں گے ابھی کیا رکھا ہے؟

حضور القدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے اس دھوکے میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے۔ کر گزرو، اس لئے کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑی یقینی چیز ہے، یہ بڑی دولت ہے، عمر کے یہ لمحات جو اس وقت انسان کو میرے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا یقینی ہے۔ اس کو برپا اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔

کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی

قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ہمیں لیک مرتبہ لور دنیا میں بیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے۔

"أَذْكُرْنَا مُعَتَرِّجُكُمْ مَا يَنْكِدُ كَفِيلُكُمْ مَنْ تَذَكَّرُ فَجَاءَهُ كَمْ الْغَيْرُينَ"

(سید قاطر: ۳۷)

کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی صفائح صحت حاصل کرنا چاہتا تو صحت حاصل کر لیتا، صرف یہ نہیں کہ مردے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ذرا نے والے بیجیہ کرنے والے بیجیہ رہے، لیک لاکھ چوبیں ہزار انبویں علیم السلام بیجیہ، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجوا، اور حضیرہ القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقاء اور ولادین حمیں مسلسل جنموجوڑتے رہے، اور حمیں غفلت سے بیدار کرتے رہے اور آگر یہ کہتے رہے کہ خدا کے لئے اس وقت کو کام میں لگاؤ۔

ذرانے والے کون ہیں؟

"ذرانے والے" کی تفسیر مفسرین نے مختلف فرمائی ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد انبویں علیم السلام اور ان کے ولادین ہیں، جو لوگوں کو دعاظ و صحت کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد "سفید بیل" ہیں یعنی جب سفید بیل آگئے تو سمجھ لو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا نے والا آگیا، کہ اب وقت آئے والا ہے۔ تیار ہو جاؤ، اور اب بھی اپنی سبقت زندگی سے تائب ہو جاؤ، اور اپنے حالات کی اصلاح کرو، اس لئے کہ "سفید بیل" آگئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر "پوتے" سے کی ہے "یعنی جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے، اور وہ دادا بن جائے، تو وہ پوتا ذرا نے والا ہے اس بات سے کہ بڑے میں تمہارا وقت آتے والا ہے، اب ہمارے لئے جگہ خل کرو۔

ملک الموت سے مکالہ

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا کہ کسی شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے ملک الموت سے شکایت کی آپ کا بھی عجیب عملہ ہے دنیا میں کسی کو پکڑا جاتا ہے۔ تو دنیا کی عدالت کا قانون یہ ہے، کہ پسلے اس کے پاس نوش بھیجنے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے، تم اس کی جواب دہی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا عملہ برا عجیب ہے کہ جب چلتے ہیں، بغیر نوش کے آدمکتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے بھیجنے گئے۔ اور روح قبض کرنی یہ کیا عملہ ہے؟— ملک الموت نے جواب دیا کہ میں۔ میں تو اتنے نوش بھیجا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنے نوش نہیں بھیجا، لیکن میں میں کیا کروں۔ تم میرے نوش کا نوش نہیں لیتے، اس کی پرولہ نہیں کرتے، لرے جب تمہیں بخدا آتا ہے۔ وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی بیداری آتی ہے، وہ میرا نوش ہوتا ہے، جب تمہارے سفید بیل آتے ہیں۔ وہ میرا نوش ہوتا ہے، تمہارے پوتے آتے ہیں۔ میرا نوش ہوتا ہے۔ میرا نوش بھیجا ہوں کہ کوئی حدود حساب نہیں۔ مگر تم کہی ہی سو دسرتے۔

بمرحل، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمادی ہے ہیں کہ جن اس کے وہ حضرت کا وقت آئے خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبھال لو اور اس صحت کے وقت کو، اور اس فراغت کے وقت کو کام میں لے آؤ، خدا جانے کا کیا علم پیش آئے۔

جو کرنا ہے ابھی کرلو

ہمارے حضرت ذاکر عبد العزیز صاحب قدس اللہ سره ہم لوگوں کو تجیرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ میں نے تمہیں جوانی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے اس کو کام میں لے لو اور جو کچھ کرنا ہے۔ اس وقت کرلو۔ عبادتیں اس وقت کرلو۔ اللہ کا ذکر اس وقت کرلو، اس وقت گناہوں سے نفع جاؤ، پھر جب بیدار ہو جاؤ گے یا ضعیف ہو جاؤ گے تو اس وقت کچھ بن نہیں پڑے گا، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے لے۔

ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دتا ہوں
وہ کیسا وقت ہو گا جب نہ ہو گا یہ بھی لمکان میں
اس وقت اگر دل بھی چاہے گا کہ آخرت کا کچھ سلطان کروں، لیکن اس
وقت ممکن نہیں ہو گا۔ کرنے نہیں سکو گے۔

دور رکعت کی حسرت ہو گی

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر
تشریف لے جد ہے تھے، راستے میں لیک قبر کو دیکھا تو ہاں پر سواری سے اتر گئے اور اتر کر
دور رکعت نفل پڑھی، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں جو
حضرات تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی خاص آدمی کی قبر ہے۔ اس لئے یہاں اتر کر دو
رکعت پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، کیا بلت ہے۔؟ آپ یہاں کیوں
اترے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے کزر اتو
میرے دل میں خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پیش چکے ہیں۔ ان کا عمل منقطع ہو چکا
ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت
کرتے ہیں کہ کاش کر ہمیں اتنا موقع اور مل جائے کہ ہم دور رکعتیں اور پڑھ لیں۔ اور
ہماری شکیوں میں اور ہمارے اعمال میں دور رکعت نفل کا اور اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس
حضرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ
نے مجھے یہ موقع دے رکھا ہے، اس لئے چلو میں جلدی سے دور رکعت نفل پڑھ اوں۔
اس لئے میں نے اتر کر دور رکعت نفل پڑھ لیں۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا
فرمایجیے ہیں وہ اپنے ایک ایک لمحے کو اس طرح کام میں لاتے ہیں۔

شکیوں سے میزان عمل بھر لو

یہ وقت کے لمحات ہونے جیتی ہیں، اسی واسطے کہا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس
لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔
لمرے جو کچھ فرمات اور حملت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، سب کچھ اسی میں ہوتا

ہے۔ آگے جا کے کچھ نہیں ہو گا، اس لئے اس دنیا میں جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو، اور اس کو کام میں لے لو۔ مثلاً ایک لوگوں میں اگر ایک مرجبہ سمجھنے کا دو، حدث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرجبہ سمجھنے پر منے سے میرزا عمل کا آدھا پوا بھر جاتا ہے، اور ایک مرجبہ "الحمد لله" کا دیا توبہ میرزا عمل کا پورا پوا بھر گیا، دیکھئے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں۔ لیکن تم اس کو گناہت پھر رہے ہو، خدا کے لئے اس کو اس کام میں استعمال کر لو۔

(کنز العمال، حدیث نمبر ۲۰۱۸)

حافظ این جھرا اور وقت کی قدر

حافظ این جھر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں اور بخلي
شریف کے شدح ہیں، اور علم کے پیار ہیں، عمل کے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو
پہنچایا تھا۔ آج انسان اس مقام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، علم اور مصنف اور حدث کے
نام سے مشہور ہیں، ان کے ملات میں لکھا ہے کہ جس وقت تصنیف کر رہے ہوتے تو
کتاب لکھتے لکھتے جب قلم کا قط خراب ہو جاتا۔ اس زمانے میں لکھنی کے قلم ہوتے تھے،
اور پر پر اس کا قط بہانا پڑتا تھا۔ تو اس کو چھوٹے دوبارہ درست کرنا پڑتا تھا۔ اور اس میں
تحوڑا سا وقت لگتا تو یہ وقت بھی بیکار گزارنا کوئہ نہیں تھا، چنانچہ بختنا وقت قط لگانے میں
گزرتا۔ اتنی دیر تیرا کلمہ "سبحان اللہ و الحمد للہ ولا اللہ لا الا اللہ و اللہ اکبر" پڑتے رہتے
تھے۔ تاکہ یہ وقت بھی صدائے جاتے۔ اس لئے کہ جو وقت تصنیف کرنے میں گزر رہا
ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں گزر رہا ہے۔ لیکن جو چند لمحات ملے ہیں۔ اس کو
کیوں صدائے کریں۔ اور اس میں تیرا کلمہ پڑھ لیں۔ تاکہ یہ لمحات بھی بیکار نہ جائیں۔
بس حل حضور نہ دس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ وقت کی قدر
پہچائیں۔

حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر

آج ہڈے محل میں سب سے زیادہ بے قدر لور بے وقت جائز وقت ہے۔ اس کو جس طرح چاہا گوا دیا۔ گپ شپ میں گزار دیا۔ یا فضولیات میں گزار دیا۔ یا چلاوجہ ایسے کام کے اندر گزار دیا جس میں نہ دنیا کا لفڑ نہ دین کافی۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے وقت کو قول قل کر خرج کرنا ہوں، تاکہ کوئی لمحہ بیکار نہ گز دے۔ یادوں کے کام میں گزرے۔ یادوں کے کام میں گزرے۔ اور دنیا کے کام میں بھی اگر بیت صحیح ہو تو وہ بھی پلا آخر دین ہی کا کام بن جاتا ہے۔ اور ہمیں صحیح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہت تو ہے ذرا شرم کی سی، لیکن تمہیں سمجھانے کے لئے کھتا ہوں، کہ جب انسان بیت الخلا میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ تو انہن ذکر کر سکتا ہے، اس لئے کہ ذکر کرنا منع ہے۔ اور وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، لور میری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جو وہ وقت وہاں بیکاری میں گز رتا ہے۔ وہ بستہ بھاری ہوتا ہے۔ کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے اس وقت کے اندر میں بیت الخلا کے لوٹے کو دھولیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت بھی کسی کام میں لگ جائے، اور تاکہ جب بعد میں دوسرا آدمی آکر اس لوٹے کو استعمال کرے تو اس کو گند لور پر اعلوم نہ ہو،

لور فرمایا کرتے تھے کہ پسلے سے سوچ لیتا ہوں کہ فلاں وقت میں مجھے پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ میں کیا کام کرنا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فوراً بعد پڑھنا لکھنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ دس منٹ کا وقہ ہونا چاہئے تو میں پسلے سے سوچ کر رکھتا ہوں کہ کھانے کے بعد یہ دس منٹ فلاں کام میں صرف کرنے ہیں، چنانچہ اس وقت میں وہ کام کر لیتا ہوں،

جن حضرات نے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے ویکھا ہو گا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں لور قلم بھی چل رہا ہے، اور بلکہ میں نے تو ان کو رکھیہ کے اندر سفر کے چوران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں جھکلے بھی بست گئے ہیں، اور ایک جلدی بھی کام کا لور شاد فرمایا کرتے تھے۔ جو سب کے لئے یاد رکھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔ فرماتے تھے کہ

کام کرنے کا بہترین صر

جس کام کو فرصت کے انتظار میں رکھا وہ نہیں گیا، یعنی جس کو اس انتظار میں رکھا کہ جب فرصت طے گئی تب کریں گے، وہ نہیں گیا۔ وہ کام پھر نہیں ہو گا۔ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیرے کام کو ذبر وستی اس کے اندر داخل کر دو، تو وہ کام ہو جائیگا۔ میں تو اپنے ولد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ آپ کافر بنا یا ہوا یہ جملہ ہیش پیش نظر رہتا ہے، اور آنکھوں سے اس کا مشابہہ کرتا ہوں کہ واقعی جس کام کے بدے میں یہ چھڑا ہوں کہ فرصت طے گی تو کریں گے، وہ کام کبھی نہیں ہوتا، اس لئے کہ حادث روز گدا ہے یہیں کہ پھر وہ موقع دیتے ہیں ہی نہیں، ہاں جس کام کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، انسان اس کام کو کر جاتا ہے، ذبر وستی کر لیتا ہے، چاہے وقت طے یا نہ طے۔

کیا پھر بھی نفس سستی کر لیگا؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سره فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ سن لو، مثلاً تمہیں یہ خیل ہوا کہ فلاں وقت میں حلاوت کریں گے، یا نفل نماز پڑھیں گے، لیکن جب وہ وقت آیا تو اب طبیعت میں سستی ہو رہی ہے۔ اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو۔ اور اس نفس سے کو کہ اچھا، اس وقت تو تمہیں سستی ہو رہی ہے۔ اور بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہلاک کہ اگر اس وقت صدرِ مملکت کی طرف سے یہ پیغام آجائے کہ ہم تمہیں بست بڑا الفعام، یا بست بڑا منصب یا بست بڑا حمدہ، یا بست بڑی ملازمت دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت فوراً ہمارے پاس آ جو۔ جو کیا اس وقت بھی سستی رہے گی؟ اور کیا تم یہ جواب دے دو گے کہ میں اس وقت نہیں آسکتا، اس وقت تو مجھے نہیں آ رہی ہے۔ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی محمل و ہوش ہے، پا دشہ کا

یہ پیغمبیر کی سالی سستی کا حل اور غیرہ دور ہو جائیگی اور خوشی کے مددے فراہم
انعام کو لینے کے لئے بھاگ کرنا ہو گا، کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔

لہذا اگر اس وقت یہ نفس اس انعام کے حوصلہ کے لئے بھاگ پڑے گا تو اس
سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اشتبہ سے کوئی عذر نہیں ہے، اگر حقیقت میں واقعہ اشتبہ
سے کوئی عذر ہوتا تو اس وقت نہ چلتے، اور بلکہ بستر پڑے رہتے، لہذا یہ تصور کرو کہ دنیا
کا ایک سربراہ حکومت جو بالکل عاجز، در عاجز، در عاجز ہے، وہ اگر تمہیں ایک منصب کے
لئے ہلا رہا ہے تو اس کے لئے لہذا بھاگ رہے ہو لیکن وہ احکام الحاکمین، جس کے قبضہ
قدرت میں پوری کائنات ہے۔ دینیتہ والا وہ ہے پیغمبیر والا وہ ہے، اس کی طرف سے بلا وہ
آرہا ہے۔ تم اس کے درہدہ میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟۔ اب تصور سے
اشتاء اللہ ہمت پیدا ہو گی، اور وہ وقت جو بیکار جلد ہا ہے۔ وہ اشتاء اللہ کام میں لگ چائے
گا۔

شوافی خیلات کا علاج

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمائے گئے کہ یہ جو گنہ کے
داعیہ ہو رکھنے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا طبع اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت
قلف پیدا ہو کہ اس نکہ کو فلڈ جگہ پر استعمال کر کے لذت حاصل کروں، تو اس وقت ذرا
سایہ تصور کرو کہ اگر میرے والد مجھے اس حالت میں دیکھے لیں۔ کیا ہمار بھی یہ حرکت
جدی رکھوں گا،؟ یا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھے اس حالت میں دیکھے رہے ہیں
کیا ہمار بھی یہ کام جدی رکھوں گا؟ یا مجھے پڑھو کہ میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھے رہی
ہے تو کیا ہمار بھی یہ کام جدی رکھوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ان میں کوئی بھی میری اس حرکت کو
دیکھ رہا ہو گا تو میں اپنی نظر پیشی کر لوں گا۔ اور یہ کام نہیں کروں گا۔ چاہے دل میں کتنا شدید
تفاسہ پیدا کیوں نہ ہو۔

پھر یہ تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا و آخرت میں کوئی
فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو جو احکام الحاکمین دیکھے رہا ہے۔ اس کی پرواہ مجھے
کیوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ مجھے اس پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس خیل اور تصور کی

برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مگنہ سے محفوظ رکھیں گے۔

تمہدی زندگی کی فلم چلا دی جائے تو؟

حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرو کی ایک بات اور یاد آگئی فرماتے تھے کہ ذرا اس بات کا حصہ کر د کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے یوں فرمائیں کہ : اپھا اگر تمہیں جنم سے ذریعہ رہا ہے، تو چلو ہم تمہیں جنم سے بچائیں گے، لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہدی پوری زندگی جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اور مرنے تک تم نے مگزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلاسیں گے اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہدا باب ہو گا تمہدی مل ہو گی، تمہدے بن بھلائی ہو گئے، تمہدی اولاد ہو گی تمہدے شاکر د ہو گئے، تمہدے استاذ ہو گئے۔ تمہدے دوست احباب ہو گئے۔ اور اس فلم کے اندر تمہدی پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائیگا، اگر تمہیں یہ بت منظور ہو تو پھر تمہیں جنم سے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید ۲۰ کے مذاہب کو گوارہ کر لے گا، مگر اس بات کو گوارہ نہیں کر لے گا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آجائے..... لہذا جب اپنے مل، ہاپ، دوست احباب، مزین و اقدب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو ہم ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیسے گوارہ کر لو گے؟ اس کو ذرا سرقج لیا کر دو۔

کل پر مت ٹالو

بہر حال، یہ حدیث جو حضرت قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی یہ یہ ہے کام کی حدیث ہے، اور لوح دل پر لٹک کرنے کے قابل ہے کہ ہر کام ایک ایک لمحہ بہادریتی ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے۔ اس کو ملا ڈھیں۔ اور یہ جو انسان سوچتا ہے کہ اپھا یہ کام کل سے کریں گے، وہ کل پھر آتی نہیں، جو کام کرنا ہے۔ وہ ابھی اور آج ہی شروع کر دو، بلا تاخیر شروع کر دو۔ کیا پتہ کہ کل آئے یا نہ آئے۔ کیا پتہ کہ کل کو یہ

وَاهِي مُوْجُود رَهْ يَاشِرَهْ، كِيَاپَتْ كَهْ كُلْ كُو حَلَاتْ سَازْ گَلَرَهْ يَاشِرَهْ، كِيَاپَتْ كَهْ كُلْ
كُو قَدْرَتْ رَهْ يَاشِرَهْ - اور كِيَاپَتْ كَهْ كُلْ كُو زَنْدَگِي رَهْ يَاشِرَهْ، - اس لَئِے قَرَآن
كَرِيم مِیں فَرمَايَا كَهْ:

وَمَارِجُوا إِلَى تَغْيِيرٍ فِي مِنْزِلٍ وَكَمْ دَبَّكْتَهُ عَنْ مُهَا السَّمَاءَاتِ قَالَ الْأَوَّلُ

(سورة آل عمران: ۱۳۳)

یعنی اپنے پورا دُکھ کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، اور اس جنت کی طرف
دوڑو جس کی چوڑائی سدے آسمان اور زمین ہے۔

نیک کام میں جلد بازی پسندیدہ ہے

جلد بازی دیے تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ لیکن نیک کے کام میں جلدی کرنا اور جس
نیک کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے، اس نیک کو سر گز رہا، یہ اچھی بات ہے۔ اور
”سداعت“ کے معنی ہیں لیک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ریس کرو،
مقابلہ کرو، اگر دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور اسی
کام کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس حدیث کو اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں آمد دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔
آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غفلت اور بے فکری میں جلا کیا ہوا ہے چوہیں گھنٹے کے
سوچ پھد میں آخرت کی فکر اور آخرت کا دھیلن بست کم آتا ہے۔ غفلت میں بڑھتے
چلے جا ہے ہیں۔ اس مضمون کو حضور نَعْلَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اس طرح ارشاد
فرمایا کہ

پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو

عَنْ هَرِبَتْ مِيمُونَتِ الْأَوَّدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى لِحَنَّهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظِمُهُ، اغْتَنِمْ

خَمْنَاقِيلَهُ، شَبِيكَ قَبْلَ هَرِمَكَ، وَصَحْتَكَ قَبْلَ سَقْمَكَ،

وَغَنَاكَ قَبْلَ فَتَرَكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغَلَكَ وَحِيَاكَ قَبْلَ

موْتَكَ؟

(مشکاة کتب الرفق رقم ۵۹۸۷).

مربن میمون اودی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیداری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی مدداری کو مختلقی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو،

جوانی کی قدر کر لو

مطلوب یہ ہے یہ پانچوں الیک ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اس وقت جوانی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آتے والا ہے، یہ جوانی ہمیشہ بلقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آیا گا۔ یا موت آئیگی، تیرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لئے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور توانائی، اور صحت اللہ تعزیز نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگالو۔ بڑھاپے میں تو یہ حل ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں واثت اور نہ پیٹ میں آنت، اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکو گے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ۔

وقت ہیری گرگ ظالم میشور پریز گد
در جوانی توبہ کرون شیدہ پیغمبری

بڑھاپے میں تو ظالم بھیز را بھی پریز گد بن جاتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ کھاہی نہیں سکتا، طاقم تھی نہ رہی، اب کس کو کھلائیں گا۔ ارے جوانی میں توبہ کرنا تباخبروں کا شیدہ ہے، اس لئے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔

صحت، مدداری اور فرصت کی قدر کرو

اس وقت صحت ہے، لیکن یاد رکھو، کوئی نہان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صحت کے بعد اس کو بیداری نہ آئے۔ بیداری ضرور آئیگی۔ لیکن پتہ نہیں کہ آجائے، اس لئے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھو لو۔

اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملی فراغت اور مدداری عطا فرمائی ہے، کچھ پڑے نہیں کہ یہ کب تک کی ہے، لکھنے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بدل گئے ہیں، اچھے خاصے اسیں کبیر تھے، مگر اب فقیر ہو گئے۔ خدا جانے کب کیا حال پیش آجائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اس مدداری کو غیبت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لئے استعمال کرو۔

اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غیبت سمجھو، یعنی فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ بلقی رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئیں گی۔ اس لئے اس فرصت کو صحیح کام میں لکالو۔ اور زندگی کو موت سے پہلے غیبت سمجھو۔

صحیح کو یہ دعائیں کرلو

اور اس زندگی کے اوقات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا نظام لا و قات بنتو، اور پھر اس کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔ ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن کن گناہوں سے اندر چلا ہوں ان کو چھوڑو، اور صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعائیں کرو کہ یا اللہ یہ دن آنے والا ہے میں ہاہر نکلوں گا۔ خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ یا اللہ میں اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنوں گا، اے اللہ، مجھے اس کی توفیق عطا فرم۔ حضیرہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعائیں مانگ کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور صبح کو وہ دعائیں ضرور مانگتی چاہئے، چنانچہ آپ دعا فرماتے:

اَتُّهْمَدُ اَفْ اَسْلَكْ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ

الْتَّهْمَدُ اَفْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ۔

(تفسی، ابواب الدحوت، باب ما جعل فی الدعاء لزالمين،)

اَتُّهْمَدُ اَفْ اَسْلَكْ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَ خَيْرَ مَا فِي

وَ مُغْرِبَةِ دُبُرِ كَتَهِ وَ هَذَا هُدَاهُ۔

(ایوداورد و کتاب ملادب، پاب مایکل اوزاچ، حدیث نمبر ۳۹۲۰)

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی دعائیں بتا گئے کہ دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی، جن کو یہ دعائیں یاد ہوں، وہ صحیح کے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لے۔ اور جن کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں، وہ باروں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ، یہ دن شروع کر رہا ہوں، اور یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوبیں گھنٹوں کو صحیح استعمال کرو نگا، غلط استعمال لور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچو نگا، میں تو ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ، میں کیا، لور میرا رادہ کیا، میرا عزم کیا۔ میری ہمت اور میرے حوصلے کی کیا حقیقت ہے، عزم دینے والے بھی آپ ہیں، ہمت دینے والے بھی آپ ہیں، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ ہی اپنے فضل سے مجھے ایسے راستے پر نگا دیجئے، ایسے حالات پیدا فرمادیجئے کہ میں اس دن کے چوبیں گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق صرف کر دوں۔ میں صحیح اٹھ کر روزانہ یہ دعا لگک لیا کرو، انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دن کے لوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔

آگے حضرت عبد اللہ بن مبدک رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے دو قول نقل فرماتے ہیں:

عن الحسن رحمه اللہ تعالیٰ انه كان يقول : ادراك اقواما
كان احد همه اشخاص على حصرة منه على دراصله و درنانيمه
و عن الحسن انه كان يقول : اهت آدم ، اياك و الشوبيث مثلك
يجهدك ولست بعذ ، ولن يكن عندك فكس في غدكم اكت في
اليوم والا يكن لك لعنة من دون ماقرئت في اليوم
(کتاب الرہد والریحان ص ۲۷)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درسیے کے تابعین میں سے ہیں، اور ہمارے مشارف اور طریقت کے جتنے سلسلے ہیں۔ ان سب کی انتہا حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتی ہے، یعنی ابتداء حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس کے بعد

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ جو حضرات شجرہ پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہو گا کہ اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم بھی آتا ہے۔ اس طرح ہم سب ان کے احسان مند ہیں۔ ہم سب کی گرد نہیں ان کے احسانات سے جگی ہوئی ہیں، اس لئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ اخنی بزرگوں کے واسطے سے عطا فرمایا ہے، بہر حال یہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔

وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے

حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان کے دو قول لقل کئے ہیں، پہلے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے۔ ”لوگوں“ سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اس لئے کہ یہ خود تابعین میں سے ہیں، اس لئے ان کے اسانیہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پایا ہے اور ان لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے جن کا اپنے عمر کے لمحات اور اوقات پر بھل سونے چاندی کے دراہم اور رند سے کمیں زیادہ تھا۔ یعنی جس طرح عام آئی کی طبیعت سونے چاندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی آجائے۔ تو وہ اس کو بڑی حفاہت سے رکھتا ہے۔ اور اس کو بے جگہ رکھنے سے پر ہیز کرتا ہے۔ تاکہ کمیں چوری نہ ہو جائے، یا اضلاع نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ وہ لوگ تھے جو سونے چاندی سے کمیں زیادہ اپنی ہمراکے لمحات کی حفاہت کرتے تھے، اس لئے کہ زندگی کا لیک لمحہ سونے چاندی کی اشرافیوں سے کمیں زیادہ قیمتی ہے۔ کمیں ایسا نہ ہو کہ ہمراکوئی لمحہ کسی بیکار کام میں، یا ناجائز کام میں، یا مالاط کام میں صرف ہو جائے۔ وہ لوگ وقت کی قدر و قیمت پہچانتے تھے کہ ہمراکے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کی کوئی حدود حلب نہیں، اور یہ نعمت کب تک حاصل رہے گی؟ اس کے پڑے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس لئے اس کو خرچ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔

دور کعت نفل کی قدر

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علی و سلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت صحابہ جو ساتھ تھے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو دور کعت نفل کبھی جلدی جلدی میں تم پڑھ لیتے ہو۔ اور ان کو تم بست معمولی سمجھتے ہو۔ لیکن یہ شخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک یہ دور کعت نفل سدی دنیا و ما فیہا سے بستریں۔ اس لئے کہ یہ قبر والا شخص اس پہت پر حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے زندگی میں دو منٹ اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت نفل اور پڑھ لیتا۔ اور اپنے نام احوال میں اضافہ کر لیتا۔

مقبرے سے آواز آرہی ہے

ہدے والد مجدد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمی ہوئی ایک لفتم پڑھنے کے قابل ہے۔ جو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام سے مانوذ ہے۔ اس لفتم کا عنوان ہے۔ ”مقبرے کی آواز“ جیسا کہ ایک شاعر نہ خیل ہوتا ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو وہ قبر والا گزر نے والے کو آواز دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ لفتم اس طرح شروع کی ہے:

مقبرے پر گزرنے والے سن
غم، ہم پر گزرنے والے سن

ہم بھی ایک دن نہیں پر چلتے تھے
ہاؤں ہاؤں میں ہم پھلتے تھے

یہ کہہ کر اس نے زبان خل سے اپنی داستان سنلی ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے ایک فرد تھے۔ تمدنی طرح کھاتے پیتے تھے۔ لیکن سدی زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا، اس میں سے ایک ذرہ بھی ہدے ساتھ نہیں آیا۔ لور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ ایک عمل کرنے کی تمنی ہو گئی تھی۔ وہ تو ساتھ آگیا، لیکن بالی کوئی چیز ساتھ نہ

آئی۔ اس لئے وہ گزرنے والے کو بصیرت کر رہا ہے کہ آج ہمارا یہ حل ہے کہ ہم فاتح کو ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آکر ہم پر فاتح پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دے، اور اے گزرنے والے، تجھے ابھی تک زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

صرف "عمل" ساتھ جائے گا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے کیا محبوب غریب انداز ہیں۔ کس کس طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو تم جیزس اس کے ساتھ جلتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز و اقدب، اور رشتہ دار، جو اس کو چھوڑنے کیلئے قبر تک جاتے ہیں۔ دوسرے اس کامل، مثلاً چلدپائی، کفن و فیرہ۔ اور تیسرا اس کا عمل، اور پھر پہلی دو جیزس۔ یعنی رشتہ دار، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے جو جیزس اس کے ساتھ جلتی ہے۔ وہ صرف اس کا عمل ہے۔

(بندی، کتب الرفق، بہب سکرات الموت)

کسی نے خوب کہا ہے۔

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم
وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ بہر حال اس "مقبرے کی آواز" میں حضرت علی
کرم اللہ وجہہ نے یہ سبق دیا کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرو، ذرا ہی دیر کیلئے یہ
سوچ لیا کرو کہ یہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا۔ اور ہماری طرح اس کو بھی زندگی میسر
تھی۔ اس کا بھی مل تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز و رشتہ دار تھے۔ اس کے بھی
چاہنے والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی چند ہات تھے، مگر آج نہ
سب رخصت ہو چکیں، ہاں اگر کوئی چیز اس کے ساتھ رہے۔ تو وہ صرف اس کا عمل
ہے۔ لور ایب یہ چھ لمحات کو ترس رہا ہے کہ اگر چھ لمحات تھے مل جائیں تو میں اپنی شکیوں
میں اضافہ کر لوں۔

موت کی تمنا مت کرو

ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرو، چاہے تم کتنی بھی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ، مجھے موت دے دے۔ اس لئے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گرفتار ہوئے ہو۔ لیکن مر کے یہ لمحات جو اس وقت میرہیں۔ اس میں پڑتے نہیں کہ کس وقت کس نیکی کی توفیق ہو جائے۔ اور پھر اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیزوں پار ہو جائے۔ اس لئے کبھی موت کی تمنا نہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، یہ دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں۔ ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف فرمادے۔

حضرت میاں صاحب کا کشف

حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ میں سے تھے، اور بڑے لوپنچھے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے میرے استاد مولانا فضل محمد صاحب مسلم سوات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب قدس اللہ سرہ حج سے واپس تشریف لائے، ہم اس وقت طالب علم تھے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، طلبہ میں سے ایک طالب علم نے کہا میاں صاحب حج کر کے آئے ہیں۔ چلوان کے یہاں جا کر سمجھو ریں کھائیں گے۔ کویا کہ اس نے حضرت میاں صاحب کے پاس جانے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہاں سمجھو ریں میں گی، ہمیں یہ بات بری گئی کہ یہ طالب علم میاں صاحب کے پاس صرف سمجھو کھانے کیلئے جانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے بڑے بزرگ ہیں اور حج کر کے آئے ہیں ان سے تو جا کر دعائیں لئی چاہئے۔ چنانچہ ہم چھ سلت طلبہ ان سے ملاحت کیلئے چلے۔ جب میاں صاحب کے گمراہ پہنچے اور ان کو جا کر سلام کیا تو میاں صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ صاحب تو سمجھو ریں کھانے آئے ہیں، ان کو تو سمجھو ریں دے کر

رخصت کر دو۔ اور بلقی طلبہ کو اندر بلا لو۔ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے۔

زیادہ باتوں سے بچنے کا طریقہ

سیرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میں امن حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیاتر انہوں نے فرمایا کہ مولوی شفیع صاحب آج ہم آپس میں عربی میں بات کریں گے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آج معلوم نہیں کیا بات ہو گئی، میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کوئی وجہ تو بتائیے؟ فرمایا کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بعض لمحات فضول اور حرادھری باتیں شروع ہو جلتی ہیں۔ اور یہ زبان قابو میں نہیں رہتی، لوط کبے تکلف عربی اترم بول سکتے ہو، اور نہ میں بول سکتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ صرف ضرورت کی بات ہو گی، بے ضرورت بات نہ ہو گی،

ہمدری مثال

پھر فرمایا کہ ہمدری مثال اس شخص جیسی ہے جو بہت مل و دولت، سونا چاندی لیکر سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ سدا مل و دولت اور سونا چاندی راستے میں خرچ ہو گیا۔ اور اب صرف چند سکے بلقی رہ گئے۔ اور سفر لمبا ہے۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت دیکھ بھل کر بہت احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ تاکہ وہ سکے بے چا خرچ نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ ہمدری بہت بڑی ہمرا تو بہت سے فضول کاموں میں گزر گئی۔ اور اب چند لمحات بلقی ہیں۔ کمیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی بے قائدہ کام میں صرف ہو جائیں۔ یہ وعی بات ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے جو علماء پیدا فرمائے تھے انہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں۔

حضرت تھانوی اور وقت کی قدر

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ مرض الموت میں جب بیدار صاحب فراش تھے، اور معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا تھا۔ اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ زیادہ بات نہ کریں۔ لیکن دن آنکھیں بند کر کے بستر پر لیئے ہوئے تھے۔ لیئے لیئے اچکٹ آنکھ کھولی۔ اور فرمایا کہ بھلی۔ مولوی محمد شفیع صاحب کو بلاو۔ چنانچہ بلایا گیا، جب وہ تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ "ادکام القرآن" لکھ رہے ہیں، مجھے ابھی خیل آیا کہ قرآن کریم کی جو فلاں آیت ہے، اس سے فلاں مسئلہ لکھتا ہے، اور یہ مسئلہ اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا، میں نے آپ کو اس لئے بتا دیا کہ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس مسئلے کو بھی لکھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ فلاں منص کو بلاو۔ جب وہ صاحب آگئے تو ان سے متعلق کچھ کام بتا دیا۔ جب پہلے ایسا کیا تو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کی خلائق کے ناظم تھے۔ اور حضرت تھانوی" تے بھی بے تکلف تھے۔ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت، ڈاکٹروں اور حکیموں نے بات چیز کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مگر آپ لوگوں کو بد پڑ بلاؤ کران سے باتش کرتے رہتے ہیں۔ خدا کیلئے آپ ہماری جان پر تور حتم کریں۔ ان کے جواب میں حضرت والا نے کیا عجیب جملہ درشاد فرمایا۔ فرمایا کہ بات تو تم غیبت کرتے ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ: وہ نکالت زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں، اگر کسی کی خدمت کے لئے ہرگز نہ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

حضرت تھانوی اور نظام الاؤقات

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تک سے لیکر شام تک پورا نظام الاؤقات مقرر تھا، یہاں تک کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ صرکی تماد کے بعد اپنی ازوں ج کے پاس

تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے پاس عذر کے بعد عمل و انصاف کے ساتھ ان کی خبر و خبر لینے کیلئے اور ان سے بات چیت کیلئے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ایک کر کے تمام ازوں مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کیلئے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ آپ کا روزانہ کام معمول تھا۔ اب دیکھئے کہ دنیا کے سارے کام بھی ہورہے ہیں۔ جناد بھی ہورہے ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ تدریس بھی ہورہی ہے۔ دین کے سارے کام بھی ہورہے ہیں۔ اور ساتھ میں ازوں مطہرات کے پاس جا کر ان کی دل جوئی بھی ہورہی ہے۔ اور حضرت تھاقوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھلا ہوا تھا۔ اور اسی اتباع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد اپنی دونوں بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ لیکن وقت مقرر تھا۔ مثلاً پندرہ منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹھیں گے۔ اور پندرہ منٹ دوسری بیوی کے پاس بیٹھیں گے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ گھری دیکھ کر داخل ہوتے۔ اور گھری دیکھ کر پاہر لکھ آتے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پندرہ منٹ کے بجائے سولہ منٹ ہو جائیں۔ یا چودہ منٹ ہو جائیں، بلکہ انصاف کے قاضی کے مطابق پورے پندرہ پندرہ منٹ تک دونوں کے پاس تشریف رکھتے، قل قل کر، ایک منٹ کا حساب رکھ کر خرچ کیا جا رہا ہے۔

دیکھئے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نر دست دولت دی ہے، ایک ایک لمحہ تیقی ہے۔ اور یہ دولت جاری ہے۔ یہ پکھل رہی ہے۔ کسی نے خوب کہا کہ کہ۔

— ہو رہی ہے عمرِ حش برفِ نکم
چکے چکے رفتہ رفتہ دم بدم

جس طرح برف ہر لمحے پکھلتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کی عمر ہر لمحے پکھل رہی ہے، اور جاری ہے۔

”سل گرہ“ کی حقیقت

جب عمر کا ایک سل گز رجاتا ہے تو لوگ سل گرہ مانتے ہیں۔ اور اس میں اس بلت کی بڑی خوشی مانتے ہیں۔ کہ ہماری عمر کا ایک سل پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیں جلاتے ہیں۔ اور کیک کاشتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبر اللہ آبادی مرحوم نے بڑا حکیم لہ شعر کہا ہے۔ وہ یہ کہ:

جب سل گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا
یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے
”عقدہ“ بھی عربی میں ”گرہ“ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرہ میں زندگی کے جو برس دیئے تھے، اس میں ایک اور کم ہو گیا۔ لرے یہ روئے کی بات ہے۔ یا خوشی کی بات ہے؟ یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ تمہی زندگی کا ایک سل اور کم ہو گیا۔

گزری ہوئی عمر کا مرشیہ

میرے والد ماجد قدس اللہ سره نے اپنی عمر کے تین سل گزرنے کے بعد سدی عمر اس پر عمل فرمایا کہ جب عمر کے کچھ سل گز رجاتے تو ایک مرشیہ کہا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا مرشیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب اپنا مرشیہ خود کہا کرتے تھے۔ اور اس کا ہم رکھتے ”مرشیہ عمر رفتہ“ یعنی گزدی ہوئی عمر کا مرشیہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائیں تب یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعہ یہی ہے کہ جو وقت گزر گیا، وہ اب واپس آئے والا نہیں، اس لئے اس پر خوشی مانتے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے کہ بقیہ زندگی کا وقت کس طریقے سے کام میں لگ جائے۔

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت چیزوں کی قیمت ہے، اس کو جمل چلا، کھو دیا، اور بر باد کر دیا۔ کوئی قدر و قیمت نہیں، کھنٹے، دن، صینے بے فائدہ کاموں میں اور قضویات میں کمزور ہے ہیں جس میں نہ تو دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ۔

کاموں کی تین قسمیں

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن میں کچھ نفع اور فائدہ ہے، چاہے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، دوسرے وہ کام ہیں۔ جو مضرت والے اور نقصان وہ ہیں۔ ان میں یا تو دین کا نقصان ہے۔ یادِ دنیا کا نقصان ہے، اور تیسرا وہ کام ہیں۔ جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دنیا کا نفع، نہ دین کا نقصان، نہ دین کا نقصان، بلکہ فضل کام ہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے جو نقصان وہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے تو پھر ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیکھو تو کاموں کی یہ جو تیسرا قسم ہے۔ جس میں نہ نقصان ہے، اور نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت میں نقصان وہ ہیں۔ اس لئے کہ جب تم ایسے کام میں اپنا وقت لگا رہے ہو۔ جس میں کوئی نفع نہیں ہے، حالانکہ اس وقت کو تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو کویا کہ تم نے اس وقت کو برپا کر دیا۔ اور اس وقت کے نفع کو ضائع کر دیا۔

یہ بھی حقیقت میں بڑا نقصان ہے

اس کی مثل یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک جزیرے میں گیا، اور اس جزیرہ میں ایک سونے کا نیلہ ہے۔ اس نیلے کے ملک نے اس شخص سے کہا کہ جب تک تم ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں سے جتنا سو نہ چاہو۔ نکل لو۔ وہ سونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وقت تم ہم اچھک سونا نکالنے سے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تم ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کس وقت تم ہم سونا نکالنے سے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تم ہمیں جبرا اس جزیرے سے نکلا پڑے گا۔ کیا وہ شخص کوئی لمحہ ضائع کرے گا؟ کیا وہ شخص یہ سوچے گا کہ ابھی تو بست وقت ہے۔ پہلے تھوڑی سی تفہیع کر کے آجلوں۔ پھر سونا نکل لوں گا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ تو ایک لمبے مدت کے بغیر یہ کو سیش کرے گا کہ اس میں سے جتنا زیادہ ہے زیادہ سونا نکل سکتا ہوں۔ وہ نکل لوں۔ اس لئے کہ جو سونا نکل لوں گا۔ وہ میرا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ شخص سونا نکالنے کے

بجائے لیک طرف الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ تو بظاہر اس میں تو نہ نفع ہے۔ نہ نقصان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ جو بہت بڑا نفع حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی غفلت سے چھوڑ دیا۔

ایک تاجر کا انوکھا نقصان

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بڑی تحبدت تھی۔ ایک مرتبہ وہ آکر کہنے لگے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرمادیں، بہت سخت نقصان ہو گیا ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیچپہدا پڑے نہیں کس مصیبت کے اندر گرفتہ ہو گیا، پوچھا کر کتنا نقصان ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت، کروزوں کا نقصان ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو پڑو کہ کس قسم کا نقصان ہوا؟ کس طرح ہوا؟ جب انسوں نے اس نقصان کی تفصیل پہنچی تو معلوم ہوا کہ کروزوں کا لیک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے علاوہ جولاکھوں پسلے سے آرہے تھے۔ وہ اب بھی آرہے ہیں۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن ایک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بدے میں ہتھیا کہ یہ بہت زردست نقصان ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے نفع نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر کر دیا۔ یعنی جس نفع کی توقع تھی۔ وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔

اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرماتے کہ کاش کہ یہ بلت وہ دین کے بدے میں بھی سوچ لیتا، کہ اگر میں اس وقت کوڈھنگ کے کام میں لگتا۔ تو اس کے ذریعہ دین کا لور آخرت کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔

ایک بنیسے کا قصہ

ایک بات ہے تو نہیں کی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سمجھنے والی حکمل دے تو اس میں

سے بھی کام کی باتیں نکلتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ جو مشور حکیم ہیں۔ انہوں نے لیک دن یہ قصہ سنایا کہ ایک بیانیاعطلہ تھا۔ جو دو ائمہ بچا کر تھا۔ اس کا پیٹا بھی اس کے ساتھ دو کان پر بیٹھتا تھا۔ لیک دن اس کو کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پیٹا۔ مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے، تو ذرا دو کان کی دیکھ بھل کرنا۔ اور احتیاط سے سودا وغیرہ فروخت کرنا، بیٹے نے کہا کہ بہت اچھا۔ اور اس بنیتے نے اپنے بیٹے کو ہر چیز کی قیمت بتا دی کہ فلاں چین کی یہ قیمت ہے۔ فلاں چین کی یہ قیمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیانیا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گاہک آیا۔ اور شربت کی دو بوتلیں اس نے خریدیں۔ بیٹے نے وہ دو بوتلیں سورپے کی فروخت کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد جب باپ واپس آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کیا بکری ہوئی؟ بیٹے نے بتا دیا کہ فلاں فلاں چین کی بھی بچ دیں۔ اور یہ دو بوتلیں بھی بچ دیں۔ باپ نے پوچھا کہ یہ بوتلیں کتنے میں بچیں؟ بیٹے نے کہا کہ سو سورپے کی بچ دیں۔ یہ جواب سن کر باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور بیٹے سے کہا کہ تم نے تو میرا کباڑہ کر دیا۔ یہ بوتلیں تو دو دو ہزار کی تھیں، تو نے سو سورپے کی بچ دیں! بڑا تاراض ہوا۔ اب پیٹا بھی بڑا رنجیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے باپ کا استابدا نقصان کر دیا۔ اور بیٹھ کر رونے لگا۔ اور باپ سے معلق مانگنے لگا کہ لا جان، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے آپ کا بہت بڑا نقصان کرا دیا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بھی رنجیدہ ٹھنڈیں اور پریشان ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ پیٹا، اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ تو نے یہ بوتلیں سورپے کی بچیں۔ اس سورپے میں سے انھاؤے روپے اب بھی نفع کے ہیں۔ بلکہ اگر تم زیادہ ہوشیداری سے کام لیتے تو ایک بوتل پر دو ہزار روپے مل جاتے، بس یہ نقصان ہوا، بلکہ گھر سے گیا کچھ نہیں۔

بہر حال، تاجر کو اگر نفع نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ بہت نقصان ہے تو بھائی۔ جب دنیا کی تجارت میں یہ اصول ہے کہ نفع نہ ہونا نقصان ہے۔ تولیم غرمی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے پدرے میں یہ سوچ لو اگر یہ لمحات زندگی ایسے کام میں لگاویے جس میں نفع نہیں ہوا۔ تو حقیقت میں یہ بھی نقصان ہے۔ نفع کا سودا نہیں۔ بلکہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لئے کہ اگر تم چاہتے تو اس سے آخرت کا بہت بڑا نفع حاصل کر لیتے۔ اس

طرح اپنی زندگی گزار کر دیکھو۔

موجودہ دور اور وقت کی بچت

اور یہ بھی ذرا سوچا کرو کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دور میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہمیں دے دیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے تصور میں بھی نہیں تھیں۔ مثلاً پسلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چینز پکانی ہوتی تو پسلے لکڑیاں لائی جائیں۔ پھر ان کو سکھایا جائے۔ پھر ان کو سلائیا جائے، اب اگر ذرا سی چائے بھی بنانی ہے تو اس کے لئے آدھا گھنٹہ چاہئے۔ اب الحمد للہ۔ گیس کے چولھے ہیں، اس کا ذرا سا کافی مروڑا، اور دو منٹ کے اندر چائے تیار ہو گئی، اب صرف چائے کی تیاری پر احتیاط منٹ بچے۔ پسلے یہ ہوتا تھا کہ اگر روٹی پکانی ہے تو پسلے گندم آئے گا۔ اس کو پچھلی میں پیسا جائے گا۔ پھر آٹا گوندیں گے۔ پھر جا کر روٹی پکے گی۔ اب ذرا سا ٹین دبایا، اب مسالہ بھی تیار ہے۔ آٹا بھی تیار ہے، اس کام میں بھی بست وقت نجح گیا۔ اب بتاؤ یہ وقت کہاں گیا؟ کس کام میں آیا؟ کہاں صرف ہوا؟ لیکن اب بھی خواتین سے کہا جائے کہ فلاں کام کر لو۔ تو جواب ملتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ پسلے زمانے میں یہ تمام کام کرنے کے باوجود خواتین کو عبادت کی بھی فرصت تھی۔ تلاوت کی بھی فرصت تھی۔ ذکر کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اللہ کو یاد کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نے آلات کی نعمت عطا فرمادی تو اب ان خواتین سے پوچھا جائے کہ تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے۔؟ تو جواب ملتا ہے کہ کیا کریں، گھر کے کام و ہندوں سے فرصت نہیں ملتی۔ پسلے زمانے میں سفر یا تو پیلی ہوتا تھا۔ یا گھوڑوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد تاگوں اور سائیکلوں پر ہونے لگا۔ اور جس مسافت کو قطع کرنے میں ممینوں صرف ہوتے تھے۔ اب گھنٹوں میں وہ مسافت قطع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کل میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا۔ اور کل نظر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازوں مدینہ طیبہ میں ادا کیں۔ اور آج جمع کی نماز یہاں آ کر ادا کر لی۔ پسلے کوئی شخص کیا یہ تصور کر سکتا تھا۔ کہ کوئی شخص مدینہ منورہ سے اگلے دن واپس لوٹ آئے۔ بلکہ پسلے تو اگر کسی کو حرمین شریفین کے سفر پر جاتا ہو تو لوگوں سے اپنی خطائیں معاف کر اکر جایا کرتے تھے۔ اس لئے کہ ممینوں کا

سفر ہوتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سفر کو اتنا آسان فرمادیا ہے کہ آدمی چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو سفر پلے ایک مینے میں ہوتا تھا۔ تو اب ایک دن میں ہو گیا۔ اور انتیس دن پہنچ گئے۔ اب اس کا حساب لگاؤ کر وہ انتیس دن کہاں گئے؟ اور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیس دن ضائع کر دیتے اور اب بھی وہی حال ہے کہ فرصت نہیں۔ وقت نہیں۔ کیوں وقت نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لئے عطا فرمائی تھیں کہ وقت بچا کر مجھے یاد کرو۔ اور میری طرف رجوع کرو۔ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور اس کی فکر کرو۔

شیطان نے شیپ ٹلپ میں لگا دیا

شیطان نے یہ سوچا کہ یہ جو وقت پہنچ گیا ہے۔ کیس ایمان ہو کہ اللہ کی یاد میں صرف ہو جائے۔ اس لئے اس نے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس نے ہم لوگوں کو شیپ ٹلپ میں لگا دیا۔ اور یہ خیل دل میں ڈالا کہ گھر میں فلاں چیز ہونی چاہئے۔ اور فلاں چیز ہونی چاہئے۔ اور اب چیز کی خریداری کیلئے پیسے بھی ہونے چاہیں اور پیسے کانے کیلئے فلاں کام کرنا چاہئے۔ تو اب ایک نیا دھندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اندر بیٹلا ہیں۔ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، مل کر بینخ گئے تو اب مگپ شپ ہو رہی ہے۔ اور ایک بیکار کام میں وقت گزرا رہا ہے۔ اس وقت کا کوئی صحیح معرفت نہیں ہے۔ یہ سب وقت کو ضائع کرنے والے کام ہیں۔

خواتین میں وقت کی نقدی

وقت ضائع کرنے اور شیپ ٹلپ کا مرغ خاص طور پر خواتین میں بے انتہا پایا جاتا ہے۔ جو کام ایک منٹ میں ہو سکا ہے۔ اس میں ایک گھنٹہ صرف کریں گی۔ اور جب آپس میں بینخیں گی تو یہی بھی باتیں کریں گی۔ اور جب باتیں بھی ہوں گی تو اس میں غیبت بھی ہو گی۔ جھوٹ بھی نہ لگے گا۔ کسی کی دل آزاری بھی ہو جائے گی۔ خدا جانے کن کن گناہوں کا لار تکاب اس مختکلوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لئے حضرت حسن بصری رحمۃ

اللہ علیہ فرار ہے جس کے میں نے ان لوگوں کو پایا ہے۔ جو اپنے لمحات زندگی کو سونے چاندی سے زیادہ تیقی سمجھتے تھے کہ کمیں ایمان ہو کہ یہ بے قائدہ کام میں صرف ہو جائیں۔

بدلہ لینے میں کیوں وقت ضائع کروں۔

یہ قصہ آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ لیک مخفض اولیاء کی نسبت معلوم کرنے کیلئے نکلے۔ ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ لور ان کے سامنے پنا مقصد بیان کیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تم فلاں مسجد میں جاؤ۔ وہاں تمیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے میں گے۔ تم جا کر چھپے سے ان تینوں کو ایک ایک دھول رسید کر دنا۔ وہ صاحب مسجد میں پہنچے تو وہ کھا کہ واقعہ تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے چھپے سے جا کر ایک بزرگ کو دھول رسید کر دی۔ تو ان بزرگ نے مذکور بھی نہیں دیکھا۔ اور اپنے ذکر کے اندر مشغول رہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کہ ان بزرگ نے یہ سوچا کہ جتنی دری میں میں چھپے مذکور دیکھوں گا کہ کس نے دھول مدا ہے۔ اور اس سے بدلہ لوں گا۔ اتنی دری میں تو میں کئی بار ” سبحان اللہ ” کہہ لوں گا، اور اس سے جو سمجھے فائدہ ہو گا بدلہ لینے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

حضرت میاں جی نور محمد ”اور وقت کی قدر

حضرت میاں جی نور محمد جنگلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حل تھا کہ جب بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی ہوتی۔ لور چیز خریدنے کے بعد خود پیسے کن کر دکاندار کو نہیں دیتے تھے۔ بلکہ پیسوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اور اس سے کہتے کہ تم خود ہی اس میں سے پیسے نکل لو۔ اس نے کہ اگر میں نکلوں گا۔ اور اس کو گنوں گا۔ تو وقت لگے گا۔ اتنی دری میں سبحان اللہ کی مرتبہ کہہ لوں گا۔

ایک مرتبہ وہ اپنے پیسوں کی تھیلی اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ کہ چھپے سے لیک اچکا آیا۔ اور وہ تھیلی چھپن کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں جی تو نور نے مذکور بھی

اس کو نہیں پہچاکہ کون لے گیا۔ اور کہاں گیا۔ اور گھروائیں آگئے، کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑے کہ اس کے جیچے بھاگے۔ اور اس کو پکڑے، بس اللہ اللہ کرو، — بہر حال ان حضرات کا حراج یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کاموں میں صرف کریں جس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو۔

معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی کا ہے

در حقیقت یہ نبی کریم صرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیک ارشاد پر عمل تھا۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے براڈر لکٹا ہے۔ مگر چونکہ بزرگوں سے اس حدیث کی تشریح بھی سنی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ بے تالی نہیں ہوتی۔ لیکن بہر حال، یہ بڑی عبرت کی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری ایک جھونپڑی تھی۔ حدیث میں لفظ "خص" آیا ہے۔ "خص" عربی میں جھونپڑی کو کہتے ہیں۔ اس جھونپڑی میں میں کچھ ثبوت پھوٹ ہو گئی تھی۔ اس لئے ایک روز میں اس جھونپڑی کی مرمت کر رہا تھا۔ اس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرنے۔ لور مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ:

"خُمْ لَنَا وَهِيَ مُتَخَنْ فَصَلَحةٌ"

یا رسول اللہ ہم تو اپنی جھونپڑی کو ذرا درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا:

ما اسماك الامر الا اعجل من ذلك

بھلائی، معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ ختم ہو جائیں۔ اور موت آجائے۔ اور آخرت کا عالم شروع ہو جائے۔ یہ لمحات جو اس وقت میرے ہیں یہ بڑی جلدی کا وقت ہے۔ اس میں تم یہ کو اپنے گمراہی مرمت کا فضل کام لے جیسھے؟

(ابو داؤد، کتب الادب، پاب جامعۃ البنا، حدیث نمبر ۵۲۲۶)

اب دیکھئے کہ وہ صحابی کوئی برا عالیشان مکان نہیں بنارہے تھے۔ یا اس کی تریم اور آرائش کا کام نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔

حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کام سے منع نہیں فرمایا کہ تم یہ کام مت کرو۔ یہ کام گناہ ہے۔ اس لئے کہ وہ کام گناہ نہیں تھا۔ مبلغ اور جائز تھا۔ لیکن آپ نے ان صحابی کو اس طرف توجہ دلادی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سدی توجہ، سدا دھیان، سدی کوشش اور سدی دوز دھوپ اسی دنیا کے ارد گرد ہو کر رہ جائے۔

بہر حال، اگر ہم سو فیصد ان بزرگوں کی اجتماع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم جو فضول کاموں میں اپنا وقت برپا کر رہے ہیں۔ اس سے نج جائیں۔ اور اپنے لمحات زندگی کو کام میں لگائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس ذکر کی بدولت زندگی کے ایک ایک لمحے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل رہا ہے۔ پھر رہا ہے۔ مگر زیان پر اللہ جل جلالہ کا ذکر جلدی ہے۔ اور ہر کام کرتے وقت اپنی نیت درست کر لو تو یہ وقت بے مصرف اور بیکار ضائع نہیں ہو گا۔

حضور کا دنیا سے تعلق

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پر سوتے تو آپ کے ہسم اطہر پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ میں نے آپ کے بستر کی چادر کو دھرا کر کے بچھا دیا۔ تاکہ نشان نہ پڑیں۔ اور زیادہ آرام ملے۔ جب صح بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائش، اس کو دھرا مست کیا کرو۔ اس کو اکھڑا ہی رہنے دو۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیوار کی آرائش کیلئے ایک پرده لٹکا دیا تھا۔ جس پر تصویریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہو گا جب تک یہ پرده نہیں حنادو گی۔ اس لئے کہ اس میں تصویر ہے۔

اور ایک مرتبہ زینت اور آرائش کیلئے ایسا پرده لٹکایا جس میں تصویر تو نہیں تھی۔ لیکن اس کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائش:

مالی والدنیا۔ ما اتنا والدنیا الا کہ اس تھنڈل تخت شجرۃ شعر لای وتر کھا۔
لرے، سیرا دنیا سے کیا کام، میری مثل تو لیک سولز کی سی ہے۔ جو کسی درخت
کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کیلئے سالی لیتا ہے۔ اور پھر اس سالی کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے
— سیرا تو یہ حل ہے۔ بہر حال، امت کو ان چیزوں سے منع تو نہیں کیا۔ لیکن اپنے عمل
سے امت کو یہ سبق دیا کہ دنیا کے اندر زیادہ دل نہ لگو۔ اس پر زیادہ وقت صرف نہ
کرو۔ اور آخرت کی تیاری میں لگو۔

(ترمذی۔ کتاب الزهد، حدیث نمبر ۲۸۷۸)

دنیا میں کام کا اصول لیک جگہ ارشاد فرمایا:

اعمل لدنیک بقدر بقائلک فیها۔ واعمل لاآخرتک بقدر بقائلک فیها
یعنی دنیا کے لئے اتنا کام کرو۔ جتنا دنیا میں رہتا ہے، اور آخرت کیلئے اتنا کام کرو
جتنا آخرت میں رہتا ہے۔ اب ہمیشہ تو آخرت میں رہتا ہے۔ لہذا اس کے لئے کام زیادہ
کرو۔ اور دنیا میں چونکہ کم رہتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے کام کم کرو۔ یہ حضور اندرس
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ اتنی اپنچی پرواہ نہ سی کہ ہم حضرت میں
جی نور محمد رحمة اللہ علیہ کے مقام تک یا ان دوسرے بزرگوں کے مقامات تک پہنچ
جائیں۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ دنیا سے دل لگا کر آخرت سے غافل اور بے پرواہ تو
نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے اوقات کو کسی طرح آخرت کے کام کیلئے استعمال کر
لو۔

وقت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو کام کرو۔ ایک یہ کہ ہر کام کے اندر نیت
کی درستی اور اس کے اندر اخلاق ہو کہ جو کام بھی کروں گا۔ اللہ کی رضا کی خاطر کروں
گا۔ مثلاً کھاؤں گا تو اللہ کی رضا کیلئے کھاؤں گا۔ کھاؤں گا تو اللہ کی رضا کیلئے کھاؤں گا۔ گھر

میں اگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گا تو اللہ کی رضاکی خاطر کرو نگا، اور ایک دفعہ سنت کی
نیت سے کرو نگا۔۔۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو۔۔۔ اس میں کیا خرج
ہوتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے ”بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِحَمْدِ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھتا رہے۔۔۔
کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی روپیہ بھی سے خرج ہوتا ہے؟ یا زبانِ حکم
جلی ہے؟ لیکن اگر انسان یہ ذکر کر تارہے تو اس کے لمحاتِ زندگی کام میں لگ جائیں
گے۔۔۔

اپنے اوقات کا چھٹا بینو

تیرے یہ کہ فضولیات سے اجتناب کرو۔ اور اوقات کو ذرا توں توں کر خرج
کرو۔ اور اس کیلئے ایک نظامِ اوقات بیو۔۔۔ اور پھر اس نظامِ اوقات کے مطابق زندگی
گزارو۔ میرے والد صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر تاجر اپنا چھٹا تیار کرتا
ہے۔ کہ کتنا روپیہ آیا تھا اور کتنا خرج ہوا۔ اور کتنا فرع ہوا؟ اسی طرح تم بھی اپنے اوقات
کا چھٹا بینو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوبیں کھنٹے عطا فرمائے تھے۔ اس میں سے کتنا وقت اللہ
تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا؟ اور کتنا وقت غلط کاموں میں صرف ہوا۔ اس
طرح اپنے نفع اور نفعان کا حساب لگاؤ۔ اگر تم ہمیاں میں کر تے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ تجدتِ خلدے میں جاری ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الظَّاهِرُونَ إِذَا مَوَاهِلُ أَدْلَكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تَتَجَيَّكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمَنِ
فَوْمَنُونَ بِإِذْنِهِ وَرَسْوَلُهُ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَهْلِهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ“
(سورہ القاف: ۱۰)

اے ایمان والو۔ کیا میں تمہیں ایسی تجدت بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب
سے نجات عطا کر دے۔ وہ تجدت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ اور اس کے رسول پر
ایمان رکھو۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔

یہ بھی جہاد ہے

لوگ "جہاد" کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لیک آدمی تکوادر اور پندوق لیکر میدان جہاد میں جائے، پینٹک وہ جہاد کا لیک اعلیٰ فرد ہے، لیکن جہاد اس میں منحصر نہیں۔ جہاد کا لیک فرد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی خواہشات سے جہاد کرے، اپنے چیزیات سے جہاد کرے۔ دل میں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی چیز پیدا ہو رہا ہے تو اس کو روکے، یہ بھی جہاد ہے۔ لور آخرت کی تجدت ہے۔ جس کا نفع اور قائدہ آخرت میں ملتے والا ہے۔ لور میں نے اپنے والد صاحب سے حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ کا یہ مرشد اتنا کہ جو شخص پناہ قائم لا وقت نہیں پتا تو اور اپنے لوقات کا حلب نہیں رکھتا کہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ در حقیقت آدمی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

نیک کام کو مت ٹلاو

حضرت حسن بصری رحمة اللہ علیہ کا دوسرا مرشد یہ ہے کہ:

ابن ۴ دم ایاک والتسویف

اے آدم کے بیٹے۔ ٹل مثول سے بچو۔ یعنی انسن کا نفس ہمیشہ یک عمل کو ہاتھ رہتا ہے کہ اچھا یا کام کل سے کریں گے۔ پرسوں سے کریں گے۔ ذرا فرست ملے گی تو کر لیں گے۔ ذرا قلاں کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر کریں گے۔ یہ ٹلانا اچھا نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ کسی نیک کام کو مت ٹلاو۔ اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا وہ ٹل گیا۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کیلئے اہتمام کرے۔

دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے

میرے لیک استاذ نے پہناؤ لقہ سنایا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجل خلق امویں سے تھے۔ لیک مرتبہ انہوں نے مجھے سے وکایت کی

کہ آپ کبھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ نہ رابطہ رکھتے ہیں۔ نہ مورث خط لکھتے ہیں۔ تو میں جواب میں کہا کہ حضرت، فرصت نہیں ملتی۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کے بدلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت دل میں نہیں۔ کیونکہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے۔ آدمی اس کام کیلئے وقت اور فرصت زبردستی نکل ہی لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کے کہ میں نے فلاں کام اس لئے نہیں کیا کہ فرصت نہیں ملتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت دل میں نہیں۔

اہم کام کو فوقیت دی جاتی ہے

ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جب آدمی کے پاس بہت سدے کام جمع ہو جائیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی کام کرے گا۔ یا اسے کرے گا۔ یا اسے کرے گا۔ سب کام تو ایک ساتھ کر شیں سکتا۔ تو اس وقت آدمی اسی کام کو پہلے کرے گا۔ جس کی اہمیت دل میں زیادہ ہو گی۔ یا ایک شخص ایک کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا کام آگیا۔ جو پہلے کام سے زیادہ اہم ہے۔ تو وہ پہلے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے، آدمی اس کام کیلئے وقت نکل ہی لیتا ہے۔ مثلاً آپ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں، اس وقت وزیر اعظم کا یہ پیغام آ جائے۔ کہ آپ کو بلایا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی یہ جواب دے گے میں بہت معروف ہوں۔ مجھے فرصت نہیں۔ وہاں تو یہ جواب آپ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے۔ اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کے لئے وقت اور فرصت اور وقت نکل ہی لیتا ہے۔ اس لئے یہیک اعمال کو فرصت پر ملاتا کہ جب فرصت ملے گی تو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جس دن دل میں اہمیت آئے گی۔ اس دن سب فرصت مل جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے

آگے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

فانك يهومك ولست بعذ فاذ يك غدوك فك ف غد كماكت فاليوم
 يعني آج کا دن تمہارے پاس یقینی ہے۔ کل کا دن تمہارے پاس یقینی نہیں۔ کیا
 کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ کل ضرور آئے گی؟ جب کل کا دن یقینی نہیں ہے تو جو کام
 ضروری ہے وہ آج ہی کے دن کرو، پہ نہیں کل آئے گی یا نہیں، اور یہ یقین مست کرد
 کہ کل ضرور آئے گی۔ بلکہ اس مفروضے پر کام کرو کہ کل نہیں آتی ہے۔ اس لئے جو
 بھی ضروری کام کرنا ہے۔ وہ آج ہی کرنا ہے۔ اگر کل کا دن مل جائے۔ اور کل
 آجائے تو کل کے دن بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔ جیسے آج ہوئے تھے۔ یعنی اس دن کے
 بدے میں یہ یقین کر لو کہ یہ آج کا دن میرے پاس ہے۔ کل کا دن نہیں ہے۔ اور
 اگر وہ کل نہ آئی تو کم از کم تمہیں یہ پیشہ نہیں ہو گی کہ میں نے کل کا دن حل کر دیا۔
 اس لئے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن خیال کرو۔

شاید یہ میری آخری نماز ہو

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس
 طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کو یہ خیال ہوتا
 ہے کہ معلوم نہیں۔ کل کو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تاکہ جو کچھ حسرت
 اور جذبہ نکلنا ہے۔ وہ میں نکل لوں، کیا پڑے کہ اگلی نماز کا وقت آئے گا یا
 نہیں؟

(ابن ماجہ۔ کتاب الزهد، باب الحکمة)

بہرحال، یہ سادی باتیں جو حضرت جن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائیں۔
 ایمان اور استقادر کے درجے میں ہر مسلم کو معلوم ہیں یہ کہ کل کا پڑھنے ہے۔ آج یقینی
 ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کا عمل نہ ہو!۔ علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر
 آمادہ کرے۔ تو ان بزرگوں کی ہاتوں میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اگر ان کو طلب کے

ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل کی توفیق بھی عطا فرمادیتے ہیں۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ نکلا کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت کیجو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پرواہی، اور وقت کی فضول خرچی سے بچو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ۔

یہ کہل کا فسلہ سود و زیاب
جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو دل سے کہ فرمت عمر ہے کم
بو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارا اور آپ کا یہ حل بنا دے کہ اپنے اوقات زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد، اور آخرت کے کام اور طاعات کے کام میں صرف کریں۔ اور فضولیات سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَأَخْرُجْ كُهُونَا إِذْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

انسانی حقوق اور اسلام

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب غلبہ



مطبوعات
مجمع اسلام

میمن اسلام ک پبلیشورس

"یات کبار راپ" ۱/۱۰۰

تاریخ خطاب : ۳۱ اگست ۱۹۹۷ء

مقام خطاب : اسلامک سینٹر
اپن پارک - لندن

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳

مختارات

ضبط و ترتیب : مولانا منظور احمد الحسینی

حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی صحیح بنیاد اور اس اساس فرمائی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون سے حیومن رائش قتل تحفظ ہیں اور کون سے حیومن رائش قتل تحفظ نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی پدایت کو اساس تحلیم نہ کیا جائے تو پھر اس دنیا میں کس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکے کہ فلاں انسانی حقوق لازماً قتل تحفظ ہیں۔

پیشہ افسوس التحسین التحییۃ خود

انسانی حقوق اور اسلام

الحمد لله خمدة وستعيينه وستغفرة ونذمت به ونحو حکل عليه، ونعود باشہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدہ اللہ خلا مصلل له، ومن يضلله خلا هادی له، وآشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وآشہد ان میدنا ونبینا و مولانا محمد ابده ورسولہ ﷺ نعماً لعلیہ وعلى الله واصحابہ وبارک وسلّم تسلیماً کثیراً - اما بعد:- فاعزوز باشہ من الشیطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحيم، المُتَّكِّفَاتْ لَكَثُرَ فِي سَوْلِ اَشْهُ اَمْوَالَ
بَخْسَهُ لِمَنْ كَانَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالْيَقِيرَ الْأُخْرَى وَذَكَرَاهُ شَكِيرًا -

امت باشہ مدد قاتل مولانا العظیم، وصدق رسوله الحکیم، وغیر عده
ذکر من الشاهدین والشکرین والحمد لله رب العالمین

حضرات علائے کرام جناب صدر محفل اور معززین حاضرین!
السلام عليکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!
آپ کا ذکر مبارک

ہمارے لئے یہ بڑی سعادت اور سرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل

میں، جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کیلئے منعقد ہے، ہمیں
شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل انسان کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برائے اور کوئی
سعادت نہیں۔ کسی شاعرنے کہا ہے

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔

اور حبیب کا تذکرہ بھی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور اسی
وجہ سے اللہ چارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص ایک
مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اللہ چارک و تعالیٰ کی
طرف سے وس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جس محفل کا انعقاد اس مبارک
ذکرہ کیلئے ہو، اس میں شرکت خواہ ایک مقرر اور بیان کرنے والے کی حیثیت میں ہو
یا سامنے کی حیثیت میں، ایک بڑی سعادت ہے۔ اللہ چارک و تعالیٰ اس کی برکات
ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین

آپ کے اوصاف اور کمالات

ذکر ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور
سیرت طیبہ ایسا موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص اسکے صرف ایک پہلو کو بھی بیان
کرنا چاہے تو پوری رات بھی اس کیلئے کافی نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود میں اللہ جل جلالہ نے تمام بشری کمالات، جتنے
متصور ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے جمع فرمائے۔ یہ جو کسی نے کہا تھا کہ

حسن یوسف دم بیٹی ید بیضا داری

آنچہ خوبی ہے دارند تو تعا داری

یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس
انسانیت کیلئے اللہ جل جلالہ کی تحقیق کا ایک ایسا شاہکار بن کر تشریف لائے تھے کہ جس
پر کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو وہ کمال ہی کمال کا مکر ہے۔
اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کے کس پہلو کو آدمی بیان کرے اُس کو چھوڑے، انسان

سکھ میں جلا ہو جاتا ہے

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می محروم
کر شدہ دامن دل می خند کہ جا اسجا است
اور غالب مر حوم نے کما تھا

غالب شنائے خواجہ بہ نزاں گذشتہ
کاں ذات پاک مر نبہ دان محروم است
آج کی دنیا کا پروپرینڈا

انسان کے تو بس ہی میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے۔ ہمارے یہ ناپاک مذہب یہ گندی زبانیں اس لائق نمیں تھیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی اجازت دی جاسکتی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس سے رہنمائی اور استفادے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اس لئے موضوعات توسیرت کے بے شمار ہیں، لیکن میرے مخدوم اور محروم حضرت مولانا زادہ الرشیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قوش کو جاری و ساری فرمائے، انہوں نے حکم دیا کہ سیرت طیبہ کے اس پلور مٹکنو کی جائے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کیلئے کیا رہنمائی اور ہدایت ہلے کر تشریف لائے اور جیسا کہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس پروپرینڈا کا بازار گرم ہے کہ اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے سے ہیومن رائٹس (Human Rights) محروم ہوں گے، انسانی حقوق محروم ہوں گے اور یہ پلیٹی کی جا رہی ہے کہ گویا ہیومن رائٹس کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں سے بلند ہوا اور سب سے پہلے انسان کو حقوق دینے والے یہ اہل مغرب ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں انسانی حقوق کا معاذ اللہ کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ موضوع جب انہوں نے مٹکنو کیلئے عطا فرمایا تو ان کے قبیل حکم میں اسی موضوع پر آج اپنی مٹکنو کو محصور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن موضوع ذرا تصور ڈاسا علی نو عیت کا ہے اور ایسا موضوع ہے کہ اس میں ذرا زیادہ توجہ اور زیادہ حاضر دنی کی ضرورت ہے، اس

لئے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی نزدیک تصریح کرنے پر اہم توجہ کے ساتھ ساعت فرمائیں۔ شاید اللہ چارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اس سلسلے میں کوئی سچی بات ڈال دے۔

انسانی حقوق کا تصور

سوال یہ پیدا ہوتا ہے: جس کا جواب دینا مفترض ہے کہ آیا اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی جامع تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کا عجیب و غریب رجحان ہے کہ انسانی حقوق کا ایک تصور پلے اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ کی روشنی میں خود متعین کر لیا کہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ ہی من رائش ہیں اور ان کا تحدیض ضروری ہے اور اپنی طرف سے خود ساختہ جو سانچہ انسانی حقوق کا ذہن میں بنایا اس کو ایک معیار حق قرار دے کر ہرجیز کو اس معیار پر پہنچنے کی کوشش کی جاری ہے۔ پہلے سے خود متعین کر لیا کہ فلاں چیز انسانی حق ہے اور فلاں چیز انسانی حق نہیں ہے اور یہ متعین کرنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسلام یہ حق دیتا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا یا نہیں دیا؟ اگر دیا تو کیونکی ہم کسی درجہ میں اس کو مانتے کیلئے تیار ہیں۔ اگر نہیں دیا تو ہم ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان مفکرین اور دانشوروں سے اور ان فکر و عقل کے سورماؤں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اپنے ذہن سے انسانی حقوق کے تصورات مرتب کئے، یہ آخر کس بنیاد پر کئے؟ یہ کس اساس پر کئے؟ یہ جو آپ نے یہ تصور کیا کہ انسانی حقوق کا ایک پلولیہ ہے، ہر انسان کو یہ حق ضرور ملا چاہئے، یہ آخر کس بنیاد پر آپ نے کہا کہ ملا چاہئے؟

انسانی حقوق بدلتے آئے ہیں

انسانیت کی تاریخ پر نظر دو ڈیکھنے تو ابتدائے آفریقش سے لے کر آج تک انسان کے ذہن میں انسانی حقوق کے تصورات بدلتے چلے آئے ہیں۔ کسی دور میں انسان کیلئے ایک حق لازمی سمجھا جاتا تھا، دوسرے دور میں اس حق کو بے کار قرار

دے دیا گیا، ایک خطے میں ایک حق قرار دیا گیا دوسری جگہ اس حق کو ناقص قرار دے دیا گیا۔ تاریخ انسانیت پر نظر دو ڈاکر دیکھئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس زمانے میں بھی انسانی گھر نے حقوق کے جو سامنے پیار کئے ان کا پروپریٹیزمنڈا، ان کی پبلیکی اس زور و شور کے ساتھ کی گئی کہ اس کے خلاف ہونے کو جرم قرار دے دیا گیا۔

حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانی حقوق کا ایک تصور تھا اور وہ تصور ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا اور اسی تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تھا، ضروری قرار دیا جاتا تھا کہ یہ حق لازی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس زمانے میں انسانی حقوق ہی کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ جو شخص کسی کاغلام بن گیا تو قلام بننے کے بعد صرف جان و مال اور جسم ہی اس کا مملوک نہیں ہوتا تھا، بلکہ انسانی حقوق اور انسانی منادات کے ہر تصور سے وہ عاری ہو جاتا تھا، آقا کا یہ بیوادی حق تھا کہ چاہے وہ اپنے ظلام کے گردن میں طوق ڈالے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائے، یہ ایک تصور تھا۔ جنہوں نے اس کو جسی فانی (Finalify) کرنے کیلئے اور اس کو جنی بر انصاف قرار دینے کیلئے قلنے پیش کئے تھے ان کا پورا الزیر ڈاکر آپ کو مل جائیا، آپ کہیں گے کہ یہ دور کی بات ہے، چودہ سو سال پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات لے لجئے، جب جرمی اور اٹی میں فاٹرم میں اور نازی ازم نے سراہایا تھا۔ آج فاٹرم اور نازی ازم کا نام گالی ہن چکا اور دنیا بھر میں بد نام ہو چکا، لیکن آپ ان کے قلنے کو اتنا کر دیکھئے، جس بیواد پر انہوں نے فاٹرم کا تصور پیش کیا تھا اور نازی ازم کا تصور پیش کیا تھا، اس قلنے کو خالص محل کی بیواد پر اگر آپ رد کرنا چاہیں تو آسان نہیں ہو گا۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ جو طاقتور ہے اس کا ہی یہ بیوادی حق ہے کہ وہ کمزور پر حکومت کرے اور یہ طاقتور کے بیوادی حقوق میں شمار ہوتا ہے اور کمزور کے ذمہ واہب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سرجھائے۔ یہ تصور ابھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہے۔ تو انسانی انکار کی تاریخ میں انسانی حقوق کے تصورات یکساں نہیں رہے، بدلتے رہے۔ کسی دور میں کسی ایک چیز کو حق قرار دیا گیا اور کسی دور میں کسی دوسری چیز کو حق قرار دیا گیا اور جس میں دور جس قسم کے حقوق کے سیٹ کو یہ کہا گیا کہ یہ انسانی حقوق کا حصہ ہے، اس کے خلاف بات کرنا زبان کھولنا ایک جرم قرار پایا۔ تو اس بات کی کیا صفات ہے کہ آج جن ہیومن رائش کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے

کہ ان ہی من رائش کا تحفظ ضروری ہے، یہ کل کو تبدیل نہیں ہوں گے، کل کو ان کے درمیان انتخاب نہیں آئے گا اور کون سی بیاد ہے جو اس بات کو درست قرار دے سکے؟

صحیح انسانی حقوق کی تعین

حضور نبی کریم صرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے بارے میں سب سے بڑا اکثری پوسٹ (Contribution) یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی صحیح بیاد فراہم فرمائی۔ وہ اساس فرایم فرمائی جس کی بیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کون سے ہیو من رائش قابل تحفظ ہیں اور کون سے ہیو من رائش قابل تحفظ نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس حلیم نہ کیا جائے تو پھر اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی بیاد نہیں ہے جس کی بیاد پر وہ کہہ سکے کہ فلاں انسانی حقوق لازماً قابل تحفظ ہیں۔

آزادی فکر کا علم بردار ادارہ

میں آپ کو ایک لیٹنے کی بلت سناؤ ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے کوئی صاحب طنے کیلئے آئے۔ کارڈ بیجا تو دیکھا کہ اس کارڈ پر لکھا ہوا تھا کہ پس ساری دنیا میں ایک مشورہ ادارہ ہے جس کا نام ایمنی ایکٹ نیشنل ہے، جو سارے انسانی بیوادی حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے، اس ادارے کے ایک ڈائریکٹر ہر س سے پاکستان آئے ہیں۔ اور وہ آپ سے ملتا چاہتے ہیں، خیر میں نے اندر بلالیا، پہلے سے کوئی اپاٹھ منٹ نہیں تھی، کوئی پہلے سے وقت قبیل لیا تھا، اچھا آگئے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایمنی ایکٹ نیشنل وہ ادارہ ہے جسکو انسانی حقوق کے تحفظ کیلئے اور آزادی تقری و حری کیلئے علمبردار ادارہ کہا جاتا ہے اور پاکستان میں جو بعض شرعی قوانین نافذ ہوئے یا ٹھہر دیا گیوں کے سلسلے میں پابندیاں عائد کی جیں تو ایمنی ایکٹ کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتجاجات کا سلسلہ

رہا۔۔۔ بہر حال یہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آگر بھے سے کہا کہ میں آپ سے اس لئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے نے مجھے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ میں آزادی تحریر و تقریر اور انسانی حقوق کے سلطے میں ساؤ تھوڑا سٹ ایشیا کے ممالک کی رائے عامہ کا سروے کروں، یعنی یہ معلوم کروں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے سلطان انسانی حقوق، آزادی تحریر و تقریر اور آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس حد تک اس معاملہ میں ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس کا سروے کرنے کیلئے میں ہیرس سے آیا ہوں اور اس سلطے میں آپ سے اخزو یوکرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے مقدرت بھی کی کہ چونکہ میرے پاس وقت کم تھا اس لئے میں پہلے سے وقت نہیں لے سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے چند سوالات کا آپ جواب دس ماؤ کہ اس کی بنیاد پر اپنی رپورٹ مرتب کر سکوں۔

آجھکل کا سروے

میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ کب تشریف لائے؟ کہا کہ میں کل ہی پہنچا ہوں۔ میں نے کہا آئندہ کیا پروگرام ہے؟ فرمائے گئے کہ کل مجھے اسلام آباد چانا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ کہا کہ اسلام آباد ایک یادو ڈن شہر کر پھر میں دہلی جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں کتنے دن قیام فرمائیں گے؟ کہا دو دن۔ میں نے کہا بھر اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد مجھے ملائیخیا جانا ہے۔ تو میں نے کہا کل آپ کراچی تشریف لائے اور آج شام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے۔ کل صحیح آپ اسلام آباد پہنچے جائیں گے، آج کا دن آپ نے کراچی میں گزارا، تو آپ نے کیا کہ اپنی کی رائے عامہ کا سروے کر لیا؟ تو اس سوال پر وہ بت سپلتا ہے۔ کہتے گئے اتنی دری میں واقعی ملاقات کی اور تھوڑا سٹ اندمازہ مجھے ہو گی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ کہا کہ پانچ افراد سے میں ملاقات کر چکا ہوں، پھنسنے آپ ہیں۔ میں نے کہا چھ افراد سے ملاقات کرنے کے بعد آپ نے کراچی کا سروے کر لیا، اب اس کے بعد کل اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں ایک دن قیام فرمائیں گے، چھ آدمیوں سے وہاں آپ کی ملاقات ہو گی، چھ آدمیوں سے ملاقات کے بعد اسلام

آبادگی رائے عامہ کا سروے ہو جائے گا، اس کے بعد دون دہلی تشریف لے جائیں گے، دون دہلی کے اندر کچھ لوگوں سے ملاقات کرس گے تو وہاں کا سروے آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ سروے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کی بات محتول ہے، واقعثاً جتنا وقت مجھے دینا چاہئے تھا اتنا میں دے نہیں پا رہا، مگر میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے کہا معاف فرمائیے، اگر وقت کم تھا تو اس داکثر نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سروے کریں؟ اس لئے کہ اگر سروے کرنا تھا تو پھر ایسے آڑی کو کرنا چاہئے جس کے پاس وقت ہو، جو لوگوں کے پاس جا کر مل سکے، لوگوں سے بات کر کے اگر وقت کم تھا تو پھر سروے کی ذمہ داری لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہنے لگے کہ بات تو آپ کی نہیں ہے، لیکن بس ہمیں اتنا ہی وقت دیا گیا تھا، اس لئے میں مجبور تھا۔ میں نے کہا معاف فرمائیے مجھے آپ کے اسے سروے کی سمجھیدگی پر تک ہے، میں اس سروے کو سمجھدہ نہیں سمجھتا، لہذا میں اس سروے کے اندر کوئی پارٹی بننے کیلئے تیار نہیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کیلئے تیار ہوں، اس لئے کہ آپ پانچ چھ آدمیوں سے منٹکوکرنے کے بعد یہ رپورٹ میں کہ وہاں پر رائے عامہ یہ ہے۔ اس رپورٹ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ میرا میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بہت سپلانے اور کہا کہ آپ کی بات دیسے نہ کنیکلی صحیح ہے، لیکن یہ کہ میں چونکہ آپ کے پاس ایک بات پوچھنے کیلئے آیا ہوں تو میرے کچھ سوالوں کے جواب آپ ضرور دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا سروے والقعة علیٰ نو عیت کا ہے اور سمجھدہ ہے، اس وقت تک میں اس کے اندر کوئی پارٹی بننے کیلئے تیار نہیں ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، میرے صہان ہیں، میں آپ کی خاطر تواضع جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، باقی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔

کیا آزادی گھر کا نظریہ بالکل مطلق ہے؟

میں نے کہا کہ اگر میری بات میں کوئی غیر محتولیت ہے تو مجھے سمجھاو بجھے کر میرا موقف فلسط ہے اور فلاں بنیاد پر فلسط ہے۔ کہنے لگے بات تو آپ کی محتول ہے،

یعنی میں آپ سے ویسے برادرانہ طور پر یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ جواب دیں۔ میں نے کہا میں جواب نہیں دیں گا، اب تک آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے سوال تو میں کرنے کیلئے آیا تھا لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو نیک آپ سوال کر لیں، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو سوال کر لوں گا اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی سوال نہیں کروں گا اور ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں آپ سوال کر لیجئے۔ تو میں نے کہا میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آزادی انہمار رائے اور انسانی حقوق کا علم لے کر چلے ہیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی انہمار رائے جس کی آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں یہ آزادی انہمار رائے یعنی مطلق ہے، اس پر کوئی قید کوئی پابندی کوئی شرط عائد نہیں ہوتی یا یہ کہ آزادی انہمار رائے پر کچھ قود و شرائط بھی عائد ہونی چاہئیں؟ کہنے لگے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا؟ تو میں نے کہا مطلب تو الفاظ سے واضح ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس آزادی انہمار رائے کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ ایسی ہے کہ جس شخص کی جو رائے ہو اس کو بر طلاق انہمار کرے، اس کی بر طلاق تخلیق کرے، بر طلاق کی طرف دعوت دے اور اس پر کوئی روک ٹوک کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ یہ مقصود ہے؟ اگر یہ مقصود ہے تو فرمائیے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے رائے یہ ہے کہ یہ دولت مند افراد نے بہت پیسے کالئے اور غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لہذا ان دولت مندوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈال کر اور ان کی دکانوں کو لوٹ کر غریبوں کو یہ پہنچانا چاہئے۔ اگر کوئی شخص دیا گز ارادت یہ رائے رکھتا اور اس کی تخلیق کرے اور اس کا انہمار کرے، لوگوں کو دعوت دئے کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور یہ جتنے دولت مند لوگ ہیں، روزانہ ان پر ڈاکہ ڈالا کریں گے، ان کا مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا کریں گے، تو آپ ایسی انہمار رائے کی آزادی کے حایی ہوں گے یا نہیں؟ اور اس کی اجازت دیں گے یا نہیں؟ کہنے لگے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ لوگوں کا مال لوٹ کر دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا بھی میرا مطلب تھا کہ اگر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ آزادی انہمار رائے اتنی (Absolute)، اتنی مطلق نہیں ہے کہ اس پر کوئی

قید کوئی شرط کوئی پابندی عائد کی جاسکے، کچھ نہ کچھ قید شرط لگانی پڑے گی۔ کنے گئے
ہاں کچھ نہ کچھ تو لگانی پڑے گی۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ وہ قید و شرط کس بیانار پر
لگانی جائے گی اور کون لگائے گا؟ کس بیانار پر یہ طے کیا جائے کہ فلاں قسم کی رائے کا
اظہار کرنا تو جائز ہے اور فلاں قسم کی رائے کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے؟ فلاں قسم کی
تلخ جائز ہے اور فلاں قسم کی تلخ جائز نہیں ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا اور کس
بیانار پر کرے گا، اس ملے میں آپ کے ادارے نے کوئی علمی سروے کیا ہوا اور علمی
تحقیق کی ہو تو میں اس کو جانتا چاہتا ہوں۔ کنے گئے کہ اس نظر نظر اس سے پہلے ہم
نے غور نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھئے؟ آپ اتنے بڑے مشن کو لے کر چلے
جیں، پوری انسانیت کو آزادی اظہار رائے دلانے کیلئے، ان کو حقوق دلانے کیلئے چلے
جیں، میکن آپ نے بیاناری سوال نہیں سوچا کہ آخر آزادی اظہار رائے کس بیانار پر
ٹھیک ہوئی چاہئے؟ کیا اصول ہونے چاہئیں؟ کیا شریں اور کیا قیود ہوئی چاہئیں؟ تو کہنے
گئے اچھا آپ ہی بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کسی سوال
کا جواب دینے بیٹھا ہی نہیں۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا
قوود و شرائط ہوئی چاہئیں اور کیا نہیں۔ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے
نظر نظر سے اور آپ کے ادارے کے نظر نظر سے اس کا کیا جواب ہوتا چاہئے؟

آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے

کنے گئے میرے علم میں بھی تک ایسا فارمولہ نہیں ہے۔ ایک فارمولہ ذہن
میں آتا ہے کہ ایسی آزادی اظہار رائے جس میں ولی لنس ہو، جس میں دوسرے
کے ساتھ تشدید ہو تو ایسی آزادی اظہار رائے ہیں ہوئی چاہئے۔ میں نے کہا یہ تو آپ
کے ذہن میں آیا کہ ولی لنس کی پابندی ہوئی چاہئے، کسی اور کے ذہن میں کوئی اور
بات بھی آسکتی ہے کہ فلاں قسم کی پابندی بھی ہوئی چاہئے۔ یہ کون ٹھیک کرے گا اور
کس بیانار پر ٹھیک کریں گا کہ کس قسم کی اظہار رائے کی کھلی چھٹی ہوئی چاہئے، کس قسم کی
نہیں؟ اس کا کوئی فارمولہ اور کوئی معیار ہوتا چاہئے۔ کنے گئے آپ سے محتکوں کے بعد
یہ اہم سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اپنے ذمہ داروں تک اس کو پہنچاؤں گا
اور اس کے بعد اس پر اکر کوئی لڑی پڑلا تو آپ کو سمجھوں گا۔ تو میں نے کہا انشاء اللہ میں

مشتر رہوں گا کہ اگر آپ اس کے اور کوئی لزیجہ بیج سکیں اور اس کا کوئی قلقدہ ہا سکیں تو میں ایک طالب علم کی حیثیت میں اس کا متعلق ہوں۔ جب وہ چلنے لگے، تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھدی گی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات متعلق کی نہیں ہے، سمجھدی گی سے چاہتا ہوں کہ اس سے پر غور کیا جائے، اس کے بارے میں آپ کے اپنا نقطہ نظر بیجیں، لیکن ایک بات میں آپ کو ہتا دوں کہ جتنے آپ کے نظریات اور فلسفے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ لیجئے، کوئی ایسا محقق فارمولہ آپ پیش کر نہیں سکیں گے، جس پر ساری دنیا متعلق ہو جائے کہ فلاں بنیاد پر انتہار رائے کی آزادی ہوئی چاہئے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی چاہئے۔ تو یہ میں آپ کو تھار دھا ہوں اور اگر پیش کر سکیں تو میں مشتر ہوں۔ آج ذیلہ سال ہو گیا ہے کوئی جواب نہیں آیا۔

انسانی عقل محدود ہے

حقیقت یہ ہے کہ یہ بجمل نظرے، کہ صاحب! ہیوسن راشن ہونے چاہیں، آزادی انتہار رائے ہوئی چاہئے، تحریر و تقریر کی آزادی ہوئی چاہئے، انکی لئی کوئی بنیاد جس پر ساری دنیا متعلق ہو سکے یہ کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس ذاتے کہ جو کوئی بھی یہ بنیادیں طے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کی بنیاد پر کریگا۔ اور کبھی دو انسانوں کی حمل یکساں نہیں ہوتیں، دو گروپوں کی عقليں یکساں نہیں ہوتیں، دو زمانوں کی عقلیں یکساں نہیں ہوتیں، لہذا ان کے درمیان اختلاف رہا ہے، رہے گا اور اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی عقل اپنی ایک لمبیشن (Limitation) رسمتی ہے، اس کی حدود ہیں، اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری انسانیت کیلئے سب سے ہدا احсан عنایم یہ ہے کہ سرکار دو عالم مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کو طے کرنے کی جو بنیاد فرائیم کی ہے وہ یہ

ہے کہ وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی سے پہچھو کر کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ ہیں اور کون سے انسانی حقوق قابل حفظ نہیں؟ وہی جا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جاتا سکتا۔

اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں

جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ جاؤ کے اسلام میں کیا حقوق دینا ہے پھر ہم اسلام کو مانیں گے۔ میں نے کہا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر پہلے اپنے ذہن میں ملے کر لیا کہ یہ حقوق جہاں ملیں گے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ حقوق چوکھے اسلام میں مل رہے ہیں ان واسطے میں جا رہا ہوں، تو یاد رکھو اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ اپنی حاجزی درماندگی اور حکیمی پیش کرو کہ ان سائل کو حل کرنے میں ہماری حصہ حاجز ہے اور ہماری سوچ حاجز ہے، ہمیں وہ بیباد چاہئے جس کی بیباد پر ہم سائل کو حل کر سکیں۔ جب آدمی اسی نقطہ نظر سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اسلام ہدایت و رہنمائی پیش کرتا ہے۔ ہدی للّٰہی علیہ وسلم۔ یہ ہدایت متفقین کیلئے ہے۔ متفقین کے کیا معنی؟ متفقین کے معنی یہ ہیں کہ جس کے دل میں طلب ہو، یہ ہو کہ ہم اپنی حاجزی کا اقرار کرتے ہیں، درماندگی کا اعتراف کرتے ہیں، پھر اپنے مالک اور خالق کے سامنے رجوع کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جائیے کہ ہمارے لئے کیا راستہ ہے؟

اللّٰہ ای جو آج کی دنیا کے اندر ایک فیشن بن گیا کہ صاحب ا! پہلے یہ جاؤ کہ ہیومن رائش کیا ملیں گے، تب اسلام میں داخل ہوں گے تو یہ طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کو اسلام کا پیغام دیا، دعوت دی تو آپ نے جتنے فیر مسلموں کو دعوت دی، کسی جگہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں آجائو جیسیں فلاں فلاں حقوق

مل جائیں گے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم کو اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف دھوت دیتا ہوں "مُؤْلِوْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُصْلِحُونَ" لے لو گو، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کبدو۔ کاملاً بہو جاؤ گے، ہذا مادی منافع مادی مصلحتوں اور مادی خواہشات کی خاطر اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ درحقیقت اخلاص کے ساتھ یعنی راستہ ٹلاش نہیں کر رہا ہے، لہذا پسلے وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ ہماری عقول ان مسائل کو حل کرنے سے عاجز ہیں۔

عقل کا دائرہ کار

یاد رکھئے کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے کہ عقل انسانی بے کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ بڑی کار آمد چیز ہے، مگر یہ اس حد تک کار آمد ہے جب تک اس کو اس کی محدودیں استعمال کیا جائے اور محدود سے باہر اگر اس کو استعمال کرو گے تو وہ فقط جواب دینا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ چارک و تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، اس کا نام وحی الہی ہے، جہاں عقل جواب دے جاتی ہے اور کار آمد نہیں رہتی وحی الہی اسی جگہ پر آگر رہنمائی کرتی ہے۔

حوالہ کا دائرہ کار

دیکھو! اللہ چارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیئے، یہ زبان دی۔ آنکھ سے دیکھ کر ہم بہت سی چیزوں معلوم کرتے ہیں، کان سے سن کر بہت ساری چیزوں معلوم کرتے ہیں، زبان سے چکھ کر بہت ساری چیزوں معلوم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا ایک فلکشن رکھا ہے، ہر ایک کا اپنا عمل ہے اس حد تک وہ کام رکھتا ہے، اس سے باہر نہیں رکھتا۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی۔ کوئی شخص یہ

چاہے کہ میں آنکھ سے سنوں تو وہ اعمق ہے۔ کان سن سکتا ہے دیکھے نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ کان سے میں دیکھنے کا کام لوں تو وہ بے وقوف ہے۔ اس واسطے کہ یہ اس کام کیلئے نہیں بنایا گیا، اور ایک حد لسکی آتی ہے جہاں نہ آنکھ کام دیتی ہے نہ کان کام دیتا ہے نہ زبان کام دیتی ہے۔ اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغل عطا فرمائی، وہاں مغل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔

تما مغل کافی نہیں

دیکھنے یہ کری ہمارے سامنے رکھی ہے، آنکھ سے دیکھ کر معلوم کیا کہ اس کے پینڈل زرد رنگ کے ہیں، ہاتھ سے چھو کر معلوم کیا کہ یہ چکنے ہیں۔ لیکن تیرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا خود بخود وجود میں آنکھی یا کسی نے اس کو بنایا؟ تو وہ بنانے والا میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس واسطے میری آنکھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میرا ہاتھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیری چیز عطا فرمائی جس کا نام مغل ہے۔ مغل سے میں نے سوچا کہ یہ جو پینڈل ہے، یہ بڑے قاعدے کا بنا ہوا ہے، یہ خود سے وجود میں نہیں آسکتا، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں مغل نے میری رہنمائی کی ہے۔ لیکن ایک چوتھا سوال آگے چل کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کرسی کو کس کام میں استعمال کرنا چاہئے، کس میں نہیں کرنا چاہئے؟ کہاں اس کو استعمال کرنے سے فائدہ ہو گا کہاں نقصان ہو گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے مغل بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اس کا نام وحی الہی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرتی ہے، وہ نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو ہاتھی ہے کہ اس چیز میں خیر ہے اس میں شر ہے، اس میں لمع ہے اس میں نقصان ہے۔ وحی آتی ہی اس مقام پر ہے جہاں انسان کی مغل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے،

لذا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آجائے اور وہ اپنی ححل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو رد کرنا کہ صاحب میری تو ححل میں نہیں آ رہا، لہذا میں اس کو رد کرتا ہوں تو یہ رد حقیقت اس ححل کی اور وہی الہی کی حقیقت ہی سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر سمجھ میں آتا تو وہی آئے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی تو آپنی ہی اس لئے کہ تم اپنی تھا ححل کے ذریعہ اس مقام تک نہیں بہنچ سکتے تھے۔ اللہ چارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ سے تمہاری مدد فرمائی اگر ححل سے خود بخود فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ححل دی ہے، ححل کے مطابق جو چیز ہمیں لگے وہ کرو اور جو بری لگے اس سے فتح جاؤ۔ نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی رسول کی ضرورت، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت، نہ کسی مذہب اور دین کی ضرورت۔ لیکن جب اللہ نے اس ححل دینے کے باوجود اس پر اتفاق نہیں فرمایا، بلکہ رسول بیجے، کتابیں اتاریں، وہی بیجی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تھا ححل انسان کی رہنمائی کیلئے کافی نہیں تھی۔ آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں چونکہ اس کا قلمبند سمجھ میں نہیں آیا، لہذا ہم نہیں ملتے تو وہ درحقیقت دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں، حقیقت سے جامل ہیں۔ سمجھ میں آپنی نہیں سکتے۔

اور ہمیں سے ایک اور بات کا جواب مل جاتا ہے جو آج تک بھی کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے چاند پر جانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، خلا کو فتح کرنے کا کوئی فارسولا محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، سب سب تو ہمیں اس قسم کے فارسولے حاصل کر کے کہاں سے کہاں بخچ گھکیں اور ہم قرآن بخش میں رکھنے کے باوجود یہچے رہ گئے، تو قرآن اور سنت نے ہمیں یہ فارسولے کیوں نہیں بتائے؟

جواب اس کا لیکی ہے کہ اس لئے نہیں بتایا کہ وہ چیز ححل کے دائرے کی تھی، اپنی ححل سے اور اپنے تجربے اور اپنی محنت سے جتنا

آگے بڑھو گے، اس کے اندر تمیں انکشافت ہوتے چلے جائیں گے، وہ تمہارے عقل کے دائرے کی چیز تھی، عقل اسکا اور آک کر سکتی تھی۔ اس واسطے اس کے لئے نبی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اس کیلئے رسول پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اس کیلئے کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کتاب اور رسول کی ضرورت وہاں تھی جہاں تمہاری عقل عاجز تھی، چیزیں کہ اینٹی ایٹر بیشنل والے آدمی کی عقل عاجز تھی کہ بیانی حقوق اور آزادی و تحریر و تقریر کے اوپر کیا پابندیاں ہونی چاہئیں، کیا نہیں ہونی چاہئیں۔ اس معاملے میں انسان کی عقل عاجز تھی اس کیلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

حقوق کا تحفظ کس طرح ہو؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایا کہ فلاں حق انسان کا ایسا ہے جس کا تحفظ ضروری ہے اور فلاں حق ہے جس کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے پہلے یہ سمجھ لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی حقوق کے سلسلے میں سب سے بڑا کنزی پیوشن یہ ہے کہ انسانی حقوق کے تعین کی بیاناد فرائم فرمائی کر کونا انسانی حق پابندی کے قابل ہے اور کونا نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آجائے تو اب دیکھئے کہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حقوق انسان کو عطا فرمائے۔ کن حقوق کو ریکنگنائز (Recognize) کیا، کن حقوق کا تعین فرمایا اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، آج کی دنیا میں ریکنگنائز کرنے والے تو بہت اور اس کا اعلان کرنے والے بہت، اس کے نامے لگانے والے بہت، لیکن ان فعروں پر اور ان حقوق کے اوپر جب عمل کرنے کا سوال آجائے تو وہی اعلان کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق قابل تحفظ ہیں، جب ان کا اپنا معاملہ آ جاتا ہے، اپنے مفاد سے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو دیکھئے پھر انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے ہیں۔

آج کی دنیا کا حال

انسانی حقوق کا ایک قاضا یہ ہے کہ اکثریت کی حکومت ہونی چاہئے۔ جموریت، سیکولر ڈیموکریسی۔ آج امریکہ کی ایک کتاب دنیا بھر میں بہت مشور ہو رہی ہے۔ ”دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاست مین“ (The end of History and the last man) کے لوگوں میں تقبل ہو رہی ہے، اس کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی ہسٹری کا خاتمہ جموریت کے اور پر ہو گیا اور اب انسانیت کے مروج اور قلاع کیلئے کوئی نیا نظریہ وجود نہیں نہیں آئے گا۔ یعنی تم نبوت پر ہم اور آپ یعنی رکھتے ہیں، اب یہ ”تم نظریات“ ہو گیا یہ کہ ڈیموکریسی کے بعد کوئی نظریہ انسانی قلاع کا وجود نہیں آئے والا نہیں ہے۔

ایک طرف تو یہ فرمہ ہے کہ اکثریت ہو بات کہہ دے وہ حق ہے اس کو قبول کرو، اس کی بات ہو، لیکن وہی اکثریت اگر الجزاں میں کامیاب ہو جاتی ہے اور انتخابات میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد جموریت بلقی نہیں رہتی۔ مگر اس کا وجود جموریت کیلئے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو فرمے کا لیتا اور بات ہے لیکن اس کے اور عمل کر کے دکھانا خشک ہے۔

یہ فرمے لگا لینا بہت لیکھی بات ہے کہ سب انسانوں کو ان کے حقوق ملے چاہئیں، ان کو آزادی انتہا رائے ہونی چاہئے لوگوں کو حق خود ارادی ملنا چاہئے اور یہ سب کچھ صحیح، لیکن دوسری طرف لوگوں کا حق خود ارادی پامل کر کے انکو کو جبر و تشدد کی بھلی میں پوسا جا رہا ہے، ان کے بارے میں آواز الحادثے ہوئے زبان تھراتی ہے اور وہی جموریت اور آزادی کے منادی کرنے والے ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہ دیا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہو بات زبان سے کو اس کو کر کے دکھاؤ اور یہ کام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو حق دیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔

وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی

غزوہ پدر کا موقع ہے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بپنے والد ماجد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل کے لٹکر سے گھر اُو ہو جاتا ہے اور ابو جہل کا لٹکر کتا ہے ہم تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں سکے، اس لئے کہ تم جاؤ گے تو ہمارے خلاف ان کے لٹکر میں شامل ہو کر جنگ کرو گے۔ یہ بھارے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے جانا تھا اور انہوں نے روک لیا۔ آخر کار انہوں نے کہا اس شرط پر ہمیں چھوٹیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو۔ کہ جاؤ گے اور جانے کے بعد ان کے لٹکر میں شامل نہیں ہو گے ہم سے جنگ نہیں کرو گے۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تھیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور اگے والد نے وعدہ کر لیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کرسیں گے، ان کے لٹکر میں شامل ہو کر آپ سے لٹیں گے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اب یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب کفار کے ساتھ جنگ کا وقت آیا، اور کسی جنگ، ایک ہزار مکہ کھرہ کے سلح سورما اور اسکے مقابلے میں ۲۱۲ نتے، جن کے پاس ۸ ٹکواریں، دو ٹکھوڑے ستر اوٹ۔ ۸ ٹکواروں کے سواتھیں سوتیرہ آدمیوں کے پاس اور ٹکوار بھی نہیں تھی، کسی نے لاٹھی اخھائی ہوتی ہے کسی نے پھر اخھایا ہوا ہے۔ اس موقع پر ایک ایک آدمی کی قیمت تھی، ایک ایک انسان کی قیمت تھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ نئے آدمی آئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اور ان سے زبردستی معاہدہ کرایا گیا ہے، یہ وعدہ زبردستی لیا گیا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو گے تو اس والٹے ان کو اجازت دیجئے کہ جہاد میں شامل ہو جائیں اور جہاد بھی کونسا؟ یوم الفرقان، جس کے اندر شامل ہونے والا ہر فرد پوری بین گیا، جس کے پارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدرا کے سارے اگلے بچپنے گناہ معاف فرمائے ہیں، اتنا بڑا غزوہ ہو رہا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جو ابو جہل کے لٹکر سے وعدہ کر کے آئے

ہو کر جگ نہیں کرو کے تو مومن کا کام وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، لہذا تم اس جگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگ میں شامل ہونے سے روک دیا۔ یہ ہے کہ جب وقت پڑے، اس وقت انسان اصول کو بھائے یہ نہیں کہ زبان سے تو کہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور ہیر و شیما اور ناگا ساکی پر بے کناہ بچوں کو بے کناہ حورتوں کو تھہ و بالا کر دیا کہ ان کی نسلیں تک مخدود پیدا ہو رہی ہیں اور جب اپنادقت پڑ جائے تو اس میں کوئی اخلاق کوئی کردار دیکھنے والا نہ ہو۔ (الاصدیق اس ۲۱۶)

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق ہائے بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ کیا حقوق ہائے؟ اب سنئے:

اسلام میں جان کا تحفظ

انسانی حقوق میں سے سب سے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے۔ ہر انسان کی جان کا تحفظ انسان کا بنیادی حق ہے کہ کوئی اس کی جان پر دست درازی نہ کرے؛ لا ھنلو النفس التي حرم اللہ الابالحق کسی بھی جان کے اوپر دست درازی نہیں کی جاسکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دی دیا اور کیا حکم دی دیا کہ جگ میں جاری ہے ہو اکفار سے مقابلہ ہے۔ دشمن سے مقابلہ ہے اس حال میں بھی تمیں کسی پنجے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، کسی حورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، بوڑھے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں جہاد کے موقع پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ پابندی الگی نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرج ہو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ صاحب زبانی طور پر تو کہ دیا اور جس میں کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حورتوں کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ثمار سماپ کرام نے اس پر عمل کر دکھایا۔ ان کا ہاتھ کسی بوڑھے پر کسی پنجے پر نہیں اٹھائی ہے جان کا تحفظ۔

اسلام میں مال کا تحفظ

مال کا تحفظ انسان کا دوسرا بنیادی حق ہے: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ باطل کے ساتھ حق طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا؟ یہ نہیں ہے کہ تاویل کر کے توجیہ کر کے مال کھائیجئے کہ جب تک اپنے

مفادلت وابست تھے اس وقت تک بڑی دیانت تھی بڑی امانت تھی، لیکن جب معاملہ جگ کا آئیا، دھنی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ صاحب تمارے اکاؤنٹس مخدود کر دیئے جائیں گے، تمارے اکاؤنٹس فرز کر دیئے جائیں گے، جب مقابلہ ہو گیا تو اس وقت میں حقوق انسانی عائب ہو گئے۔ اب مال کا تحفظ کوئی حقیقت نہیں رکتا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال پیش کی وہ عرض کرتا ہوں۔ فزوہ خبر ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیر کے اوپر حملہ آور چیز اور قلعہ خیر کے گرد حاصلہ کئے ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیر کے قلعہ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہے، خیر کے اندر ایک بے چارہ چھوٹا سا چڑواہا جرت پر بکریاں چڑایا کرتا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیر سے باہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹکر پڑا ہوا ہے جاکر دیکھوں تو سی، آپ کا نام تو بت سنائے "محمد" صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اور کیسے آدمی ہیں؟ بکریاں لے کر خیر کے قلعے سے نکلا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسلمانوں کے لٹکر میں داخل ہوا۔ کسی سے پوچھا کر بھائی محمد کہاں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیہے کے اندر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیہے کے اندر یہ سمجھو کر کامعمولی ساختہ جھونپڑی، اس میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا نمی وہ اس خیہے کے اندر ہے؟ لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو اس میں چلا گیا۔ اب جب داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتھے، جاکر کہا کہ یا رسول اللہ! آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخترا بتایا، "توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ کہنے لگا اگر میں آپ کے اس پیغام کو قبول کرلوں تو میرا کیا مقام ہو گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور جو حقوق دوسروں کو حاصل ہیں، وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے۔ کہنے لگا آپ مجھ سے لیکی بات کرتے ہیں، "نداق کرتے ہیں ایک کالا بھجک چڑواہا سیاہ فام، میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت کے اندر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے اور یہاں تو مجھے دھکار اجا تا ہے،" میرے ساتھ اہانت آمیز بر تاؤ کیا جاتا ہے تو آپ یہ جو مجھے سینے سے لگائیں گے تو میں وجہ سے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "اللہ کی حقوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، اس واسطے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ کما

کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں مسلمان ہو جاؤں، تو میرا انجمام کیا ہو گا۔ تو سرکار دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی جگ کے اندر مر گئے تو میں کو یا ہی دھن ہوں
کہ اللہ چار ک و تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کوتا بانی سے بدلتا یا اور تمہارے
جسم کی بدلو کو خوشبو سے بدلتا یا۔ میں گواہی دھن ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جب یہ فرمایا، اس اللہ کے بندے کے دل پر اثر ہوا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں
 تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، عرض کیا میں مسلمان ہو گیا،
 اب جو حکم دیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب
 سے پلا حکم اس کو یہ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں دیا کہ روزہ رکھو، پلا حکم یہ دیا کہ
 جو بکریاں تم چرانے کیلئے لے کر آئے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہیں، پہلے ان بکریوں
 کو ولپیں دے کر آؤ اور اس کے بعد اگر پوچھنا کہ مجھے کیا کرتا ہے؟ بکریاں کس کی،
 یہ ولپیں کی، جن کے اوپر حملہ آور ہیں، جن کے ساتھ جگ جھڑی ہوتی ہے، جن کا
 مال غیرت چھیننا جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ مال غیرت جگ کی حالت میں چھیننا تو جائز
 تھا لیکن تم لے کر آئے ہو ایک معابرہ کے تحت۔ اور اس معابرے کا تقاضا یہ ہے کہ
 ان کے مال کا تحفظ کیا جائے، اس معابرے کا تحفظ کیا جائے، یہ ان کا حق ہے، لہذا
 ان کو پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بکریاں تو ان دشمنوں کی ہیں جو آپ کے
 خون کے پیاس سے ہوئے ہیں اور پھر آپ ولپیں لوٹاتے ہیں، فرمایا کہ ہاں! پہلے ان کو
 ولپیں لوٹاؤ۔ چنانچہ بکریاں ولپیں لوٹائی گئیں۔

کوئی مثال پیش کریا کہ یعنی میدان جگ میں یعنی حالت جگ کے اندر
 انسانی مال کے تحفظ کا حق ادا کیا جا رہا ہو؟ جب بکریاں ولپیں کر دیں تو اگر پوچھا کر
 اب کیا کروں؟ فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں، نہ رمضان کا
 میہنہ ہے کہ روزے رکھواؤں، نہ تمہارے پاس مال ہے کہ زکاۃ دلواؤں۔ ایک ہی
 عبادت اس وقت ہو رہی ہے جو کہ تکوار کی چھاؤں کے نیچے ادا کی جاتی ہے وہ ہے
 جماد، اس میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اس میں شامل ہو گیا، اس کا اسود رائی نام آتا
 ہے۔ جب جماد ختم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جگ ختم ہونے
 کے بعد دیکھنے جایا کرتے تھے کہ کون زخمی ہوا کون شرید ہوا تو دیکھا کر ایک جگہ صحابہ
 کرام کا جمع لگا ہوا ہے۔ آپس میں صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا محاصلہ ہے تو صحابہ کرام نے چایا کہ یہ ایسے شخص کی

لاش ملی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریب بخج کر دیکھا اور فرمایا تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں اور میری آنکھیں دیکھے
رہی ہیں اللہ چارک و تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کے اندر کو شرو تینیم سے عسل
دیا ہے اور اس کے چڑے کی سیاہی کو تابانی سے ہدل دیا ہے، اس کی بدببو کو خوبصورت
تبدیل فرمادیا ہے۔

بمرحال، یہ بات کہ مال کا تحفظ ہو، بخشن کرد دینے کی بات نہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کافر کے مال کا تحفظ دشمن کے مال کا تحفظ، جو
معابرے کے تحت ہو۔ یہ مال کا تحفظ ہے۔

اسلام میں آبرو کا تحفظ

تیرا انسان کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی آبرو و حفاظت ہو۔ آبرو کی تحفظ کا
نفرہ لگانے والے بہت ہیں، لیکن یہ پہلی بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ انسان کی آبرو کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پیغمبہر پیچے اس کی برائی نہ کی جائے، غیبت
نہ کی جائے۔ آج بنیادی حقوق کا نفرہ لگانے والے بہت، لیکن کوئی اس بات کا
اهتمام کرے کہ کسی کا پیغمبہر پیچے ذکر برائی سے نہ کیا جائے، غیبت کرنا بھی حرام،
غیبت سننا بھی حرام اور فرمایا کہ کسی انسان کا دل نہ توڑا جائے۔ یہ انسان کیلئے گناہ
کبیرہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ افقہ الصحابة حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف فرمائی ہے ہیں، طواف کے دوران آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتنا مقدس
ہے، کتنا معلم ہے، پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے
عبد اللہ! یہ کعبتہ اللہ بڑا مقدس بڑا حرام ہے، لیکن اس کائنات میں ایک چیز الکی ہے
کہ اس کا مقدس اس کا مقدس کعبہ سے بھی زیادہ ہے اور وہ چیز کیا؟ ایک مسلمان کی جان
مال اور آبرو کے اس کا مقدس کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی
جان پر مال پر آبرو پر ناقص حملہ آور ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ وہ کعبہ کے دھاری ہے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ حق دیا۔

اسلام میں معاش کا تحفظ

جو انسان کے بینادی حقوق ہیں وہ ہیں جان، مال اور آمروں، ان کا تحفظ ضرور ہے۔ پھر انسان کو دنیا میں جیسے کیلئے معاش کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی دولت کے ملبوتے پر دوسروں کیلئے معاش کے دروازے بند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا۔ ایک طرف تو یہ فرمایا: جس کو کہتے ہیں فریڈم آف کونٹریکٹ (Freedom of Contract)۔

معاہدے کی آزادی جو چاہیے معاہدہ کرو، لیکن فرمایا کہ ہر وہ معاہدہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اوپر خربی دلچسپی ہوتی ہو، ہر وہ معاہدہ جس کے نتیجے میں دوسرے آدمی پر رزق کا دروازہ بند ہوتا ہو وہ حرام ہے، فرمایا: لابیع حاضر لباد کوئی شری کسی دیساتی کامل فروخت نہ کرے۔ ایک آدمی دینات سے مال لے کر آیا تھا ذری پیداوار، ترکاریاں لے کر شری میں فروخت کرنے کیلئے آیا تو کوئی شری اس کا آذمیت نہ بنے، اس کا وکیل نہ بنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے اگر دو آدمیوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا مال فروخت کروں گا، تمہارے سے اجرت لوں گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ جو شری ہے، وہ مال لے کر بیٹھ جائے گا تو احکام کرے گا اور بازار کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کریگا۔ اس اجارہ داری قائم کرنے کے نتیجے میں دوسرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس واسطے فرمایا: لابیع حاضر لباد۔ تو کب معاش کا حق ہر انسان کا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی دولت کے ملبوتے پر دوسرے کیلئے معیشت کے دروازے بند نہ کرے۔ یہ نہیں کہ سو دکھا کھا کر، قدار تکمیل کھیل کر، گیم بلنگ کر کر کے، نہ تکمیل کھیل کر آدمی نے اپنے لئے دولت کے انبار جمع کرتے اور دولت کے اپنا رہوں کے ذریعے سے وہ پورے بازار کے اوپر قابض ہو گیا کوئی دوسرا آدمی اگر کب معاش کیلئے داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے دروازے بند ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ کب معاش کا تحفظ نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کا بینادی حق قرار دیا اور فرمایا:

دعا االناس یورشی اللہ بعضاہم ببعض

لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ کب معاش کا تحفظ ہے۔ جتنے حقوق عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متین فرمائے اور متین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔

اسلام اور عقیدے کا تحفظ

عقیدے اور دیانت کے اختیار کرنے کا تحفظ، کہ اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ اختیار کئے ہوئے ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی زبردستی جاکر مجبور کر کے اسے دو سرادین اختیار کرنے پر مجبور کرے: لا اکر ادق الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین کے اندر کوئی جبرا نہیں۔ اگر ایک عیسائی ہے تو یہاں رہے، ایک یہودی ہے تو یہودی رہے، قانوناً اس پر کوئی پابندی عامد نہیں کی جاسکتی۔ اس کو تبلیغ کی جائے گی دعوت دی جائے گی، اس کو حقیقت حال سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو اسلام میں داخل کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے محسن اس کے سامنے آگئے، تو اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ داراللہ اسلام میں رہتے ہوئے وہ اس دین کو برطلا چھوڑ کر ارتدا و کارستہ اختیار کرے۔ اس واسطے کہ اگر وہ ارتدا و کارستہ اختیار کریگا تو اس کے متنی یہ ہیں کہ معاشرے میں فساد پھیلانے گا اور فساد کا علاج آپریشن ہوتا ہے، لہذا اس فساد کا آپریشن کر دیا جائے گا اور معاشرے میں اس کو فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

بہر حال کسی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، کسی کی سمجھی میں آئے یا نہ آئے، میں پسلے کرہ چکا ہوں کہ ان معاملات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد فرمائی ہے۔ حق وہ ہے جسے اللہ مانے، حق وہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں، اس سے باہر حق نہیں ہے۔ اس لئے ہر شخص عقیدے کو اختیار کرنے میں شروع میں آزاد ہے، ورنہ اگر مرتد ہونا جرم نہ ہوتا تو اسلام کے

وشن اسلام کو بازیچہ اطفال بنائے دکھلاتے۔ کتنے لوگ تماشا دکھانے کیلئے اسلام میں داخل ہوتے اور نکلتے، قرآن کریم میں ہے لوگ یہ کتنے ہیں صحیح کو اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تو یہ تماشا بنا دیا گیا ہوتا۔ اس واسطے دارالاسلام میں داخل رہتے ہوئے اربد ادکی مجنیاتش نہیں دی جائے گی، اگر واقعہ دیانت داری سے تمہارا کوئی عقیدہ ہے تو پھر دارالاسلام سے باہر جاؤ، باہر جا کر جو چاہو کرو، لیکن دارالاسلام میں رہتے ہوئے فاد پھیلانے کی اجازت نہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل

بہر حال یہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۳) آبرو کا تحفظ (۴) عقیدے کا تحفظ (۵) کب معاش کا تحفظ۔ یہ انسان کی پانچ بیانادی ضروریات ہیں۔ یہ پانچ مثالیں میں نے پیش کیں، لیکن ان پانچ مثالوں میں جو بیانادی بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والے تو اس کے بہت ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کے دکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ان کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جائے، ایک موقع پر بیت المقدس سے فوج بلا کر کی اور محاذ پر بھینجئے کی ضرورت پیش آئی۔ زبردست ضرورت داعی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بیت المقدس میں جو کافر رہتے ہیں، ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر فوج کو یہاں سے ہٹالیں گے تو ان کا تحفظ کون کریگا؟ ہم نے ان سے اس کام کیلئے جزیہ لیا ہے، لیکن ضرورت بھی شدید ہے۔ چنانچہ انہوں نے سارے غیر مسلموں کو بلا کر کیا کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس کی خاطر تم سے یہ تکیس بھی وصول کیا تھا، اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم تمہارا تحفظ کا حقہ نہیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ سکتے، لہذا فوج کو ہم دوسرا جگہ ضرورت کی خاطر بیجھ رہے ہیں تو جو تکیس تم سے لیا گیا تھا وہ سارا تم کو واپس کیا جاتا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عمل

حضر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر کہنے والے ظالموں نے کیے کیسے بہتانوں کی بارش کی ہے، ان کا واقعہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ روم کے ساتھ لڑائی کے دوران جنگ بندی کا معاهدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، ایک خاص تاریخ تک یہ طے ہو گیا کہ جنگ بندی رہے گی، کوئی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریگا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے والش مند بزرگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جس تاریخ کو معاهدہ ختم ہو رہا ہے، اس تاریخ کو فوجیں لے جا کر سرحد کے پاس ڈال دیں کہ اور ہر آفتاب غروب ہو گا اور تاریخ بدلتے گی، اور حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ دشمن کو یہ خیال ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گی، کیسیں دوسرے چیزیں گے، تو وقت لگے گا، اس واسطے انہوں نے سوچا کہ پہلے فوج لے جا کر سرحد پر ڈال دیں۔ چنانچہ سرحد پر فوج لے جا کر ڈال دی اور اور اور اس تاریخ کا آفتاب غروب ہوا جو جنگ بندی کی تاریخ تھی اور انہر انہوں نے حملہ کر دیا، روم کے اوپر یلغار کر دی اور وہ بے خبر اور غافل تھے، اس ولٹے بہت تیزی کے ساتھ کرتے چلے گئے، زمین کی زمین خلطے کے خلطے لخت ہو رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب آگے بڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے دیکھا گھوڑے پر ایک شخص سوار دور سے سرپٹ دوڑا چلا آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے بقنو اعبد اللہ اعبد اللہ! اللہ کے بندوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رک گئے، دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبید رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبید رضی اللہ عنہ قریب تشریف لائے، فرمایا وفا لاء عدو مومن کاشیو و قادری ہے قادری نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو کوئی قادری نہیں کی۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا تو حضرت عمر بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ان کا نوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے۔

من کاف بینہ و بین قرہ عہد فلا یحملنہ ولا یشد نہ حتی یمصنی
املہ او ینبذ علیہم عمل سولو ۱۰ (ترمذی کتاب الہمار، یاہبی اللہدر، حدیث نمبر ۱۵)

جب کسی قوم کے ساتھ معاهدہ ہو تو اس معاهدے کے اندر کوئی ذرا سائبھی

غیر نہ کرے، نہ کھولے نہ پاندھے، یہاں تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے اور یا ان کے سامنے مکمل کر بیان نہ کر دے کہ آج سے ہم تمہارے معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ اور آپ نے معاہدہ کے دوران سرپر فوجیں لا کر ڈال دیں اور شاید اندر بھی تھوڑا تھمگی ہوں تو اس واسطے آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی اور یہ جو آپ نے علاقہ فتح کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کے نئے میں جا رہے ہیں، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ساری فوج کیلئے حکم جاری کر دیا کہ ساری فوج ولپیں لوٹ جائے اور یہ مفتوحہ علاقہ خالی کر دیا جائے۔ جتناچہ بورا مفتوحہ علاقہ خیال کر دیا۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ کسی قائم نے اپنے مفتوحہ علاقے کو اس وجہ سے خالی کیا ہو کہ اس میں معاہدے کی پابندی کے اندر ذرا سی اوچھرہ بھی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔

بات تو جتنی بھی طویل کی جائے قسم نہیں ہو سکتی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ کون انسانی حقوق کا تعین کریگا کون نہیں کریگا۔ دوسری بات یہ کہ آخرست صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ تھیں کئے گئے جن پر عمل کیا جائے۔

آجکل کے ہیو من رائش

آج کہنے کیلئے ہیو من رائش کے چڑے شاندار چار ڈچاپ کر دنیا بھر میں تنشیم کر دیئے گئے کہ ہیو من رائش چار ڈیگری ہیں، لیکن یہ ہیو من رائش چار ڈیگری کے پہانے والے اپنے مذاہلات کی خاطر سافر دار طیارہ، جس میں بے گناہ افراد سفر کر رہے ہیں، اس کو گراہیں، اس میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا اور مظلوموں کے اوپر مزیدہ ظلم دشمن کے ہنگے کے جائیں، اس میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ہیو من رائش اسی جگہ پر محروم ہوتے نظر آتے ہیں جہاں اپنے مذاہلات کے اوپر کوئی زد پڑتی ہو اور جہاں اپنے مذاہلات کے خلاف ہو تو وہاں ہیو من رائش کا کوئی تصور نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہیو من رائش

کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ جارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو باطل پروپگنڈہ ہے اس کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھئے کہ بعض لوگ اس پروپگنڈے سے مرجووب ہو کر مغلوب ہو کر یہ معدود رت خواہاں انداز میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب! ہمارے ہاں تو یہ بات نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اسلام نے فلاں حق دیا ہے اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو توڑ مردگرگی نہ کسی طرح ان کی مرضی کے مطابق ہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھئے ولن ترضی عنک الیہو دولا النصاری حنیتی تتبع ملتهم۔ قل ان هدی اللہ هو الهدی (یہ یہود اور نصاری آپ سے ہرگز ہیں وقت تک خوش نہیں ہوں گے، جب تک آپ ان کے دین کی اجماع نہیں کرس گے) فدا جب تک اس پر نہیں آؤ گے کہ کتنا ہی کوئی اعتراض کرے، لیکن ہدایت تو وہی ہے جو اللہ جارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا کبھی ان نعروں سے مرجووب اور مغلوب نہ ہوں، اللہ جارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

شب برات کی حقیقت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب قلم



شب برات
موعبد اندیشین

میمن اسلامک پبلشرز

"یادگاریات بارگارا"

موضوع خطاب :

مقام خطاب : جامع مسجدیت المکرم
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر نامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۳

: صفحات

امت مسلم کے جو خیر المترون ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبعین کا دور، ملن میں اس رات کی فضیلت سے قائدہ الثانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں لہذا اس کو پر دعوت کہتا، یا بے بنیلو لور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات لکھی ہے کہ یہ فضیلت ولی رات ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث ایرو و ثواب ہے، لور اس کی خصوصی اہمیت

-۶-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شب برات کی حقیقت

الحمد لله خمدة وستعيته وستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتعوذ
بإله من شرور أنفسنا ومن مثبات اعماقنا، من يهدى الله فلام مضل له ومن يضل الله
فلا هادى له، وأشهد أنت لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأشهد أن سيدنا و
نبينا ومولانا محمد أعبده ورسوله، صل الله عالي عليه وعلى آله واصحابه وبارك
وسلمه تسليماً كثيراً كثيراً - أما بعد!

شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس مہینے ایک مبارک رات آنے والی
ہے، جس کا نام "شب برات" ہے۔ چونکہ اس رات کے پدرے میں بعض حدایات کا
خیلی یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ملت نہیں۔ اور اس رات
میں جاؤ کنا، اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باغث اجر و ثواب کھننا بے نیاں
ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تغیر کیا ہے، اس
لئے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے پدرے میں مختلف حالات پیدا ہو رہے ہیں۔
اس لئے اس کے پدرے میں کچھ عرض کرنے مناسب معلوم ہوا۔

دین اتباع کا نام ہے
اس سلسلے میں مختصر آگزادش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض

کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آمدوں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدبعت ہے۔ لور میں بھی یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھر کر اس پر چلنے کا ہم دین نہیں ہے۔ بلکہ دین اتباع کا ہم ہے۔ کس کی اتبع؟ حضور نقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعۃ یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو یہ نک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت و بدبعت ہو گا، جیسا کہ شب معراج کے بعدے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عہدوت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں۔

اس رات کی فضیلت بے نیاد نہیں

لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بعدے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے یہ نک پچھے کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین لور فقیہوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں۔ لہذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں۔ اس کو بے نیاد لور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔

شب برات اور خیر القرون

امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ لہذا اس کو

بدعت کرتا، یا بے نیلوںور بے اصل کرتا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاؤ کنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔

کوئی خاص عبادت مقرر نہیں

البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کر فلاں طریقہ سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ مکفر کر دیا کہ شب برلت میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بالکل پے غیارہ بات ہے، بلکہ تقلی عبادت جس قدر ہو سکے، وہ اس رات میں اجسام دی جائے تقلی نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ذکر کریں۔ شیعہ پڑھیں۔ دعائیں کریں یہ سدی عبادتیں اس رات میں کی جاسکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ مثبت نہیں۔

اس رات میں قبرستان جلانا

اس رات میں ایک اور عمل ہے، جو ایک روایت سے مثبت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ اس نے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگئے کہ شب برلت میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شیخ صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں مثبت ہو، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہئے۔ اس سے آگے جیسی بڑھانا چاہئے، لذاذی حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جلا مروی ہے، کہ آپ شب برلت میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جلا مروی ہے، اس نے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ طے جاؤ تو تھیک ہے۔ لیکن ہر شب برلت میں

جانے کا اہتمام کرنا۔ التزام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کالازی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوتی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے پڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی ایجاد میں جا رہا ہوں۔ *تو انشاء اللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی چلو، لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔* یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے۔ کہ جو چیز جس درجہ میں مثبت ہو، اس کو اسی درجہ میں رکھو، اس سے آگے مت پڑھلو۔ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو۔

نوافل گھر پہ ادا کریں

میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں، پہلے صرف شینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلوٰۃ اتسیع کی بھی جماعت ہونے لگی ہے، یہ صلوٰۃ اتسیع کی جماعت کسی طرح بھی مثبت نہیں، ناجائز ہے۔ اس کے پارے میں ایک اصول سن لجھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور نقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا مثبت ہیں، مثلاً تراویح، کسوف اور استغفار کی نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے پارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے، صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں، بلکہ سنت موکدہ قریب یو اجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدة یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہاء نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ بھی فرمادیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں۔ تاکہ چھوٹنے جائیں، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں، اور نفل کے پارے میں تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے۔ کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت خفیہ کے

نزویک کر کر تحریک نہ راجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نعل پڑھ لئے تو شوائب تو کیا ملے گا۔ المذاکرہ ملے گا،

فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں

پات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعبہ ہیں، دین کی علامت ہیں اللذان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، کوئی آدمی یہ سوچے کر کہ اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریا کاری کا اندریشہ ہے، اس لئے میں کمر ہی میں نماز پڑھ لول، اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں، اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس لئے کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کا لیک شعبد خالہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لئے اس کو مسجد ہی میں ادا کرو۔

نوافل میں تخلیٰ مقصود ہے

لیکن نعل ایک ایسی عبادت ہے، جس کا تعلق بس بنہ اور اس کے پور و گارے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پور و گار ہو، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والقہ میں آتا ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

“امسحت من ناجیت”

(ابو داؤد، کتب الصلاة، بہب رفع المحت، حدیث نمبر ۱۳۲۹)

یعنی جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں، اس کو سنادیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ — لہذا نقلی عبادات کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو لور اس کا پور و گار ہو، کوئی تیرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بنہ بر لوار است مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لئے نقلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو نکر کرہ قرار دے دیا، لور یہ حکم دے دیا کہ ایکیلے آؤ، تخلیٰ اور خلوت میں آؤ، لور ہم سے بر لوار است رجھٹ قائم کر، دیجے خلوت اور تخلیٰ کتنا بڑا فحام ہے، ذرا غور تو کرو، بنہ کو کچھ بڑے فحام سے فواز اجارہ ہے، کہ خلوت اور تخلیٰ میں ہمدے پاس آؤ۔

تھلیٰ میں ہمارے پاس آؤ

بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے، دوسرا خاص دربار ہوتا ہے۔ جو خلوت اور تھلیٰ کا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضر دیتے ہو، تو اب ہم تمھیں خلوت اور تھلیٰ کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تھلیٰ کے موقع کو جلوٹ میں تبدیل کر دے، اور جماعت ہنادے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے ہیں کہ تم تھلیٰ میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تھلیٰ میں تمھیں نوازیں گے۔ لیکن تم ایک جم غیر اکھاکر کے لئے جا رہے ہو۔

تم نے اس نعمت کی ناقدری کی

مثلاً اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لئے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ کے کہ آج رات کو ۹ نوبجے تھلیٰ میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیوریٹ بات کرنی ہے، جب رات کے نوبجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جمگھنا اکھاکر لیا، اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری کی؟ اس نے تو تمھیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تھلیٰ میں میرے پاس آؤ، تم سے تھلیٰ میں باقی کرنی تمھیں، تمھیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا۔ اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا۔ اور تم پوری ایک جماعت ہنا کر اس کے پاس لے گئے، تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔

اس لئے الہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو، نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو، اور تمہد اللہ ہو، تیرا کوئی نہ ہو، لہذا نفلی عبادت جتنی بھی ہیں، ان سب کے اندر اصول یہ ہیں فرمادیا کہ تھلیٰ میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت کے مکروہ تحریکی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ نداوی جاری ہے کہ:

الاہل من مستغفر، فاغفر له

کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں؟ یہاں لفظ "مستغفر" مغفرہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کوئی تخلیٰ میں مغفرت کرنے والا ہے، تخلیٰ میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے، لمب اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے ہے چونکہ تخلیٰ میں میرے پاس آگر مجھ سے ہوگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا، چراغوں کیا، اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آگر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے، لہذا شبینہ ہو، یا صلاۃ الصبح کی جماعت ہو، یا کوئی اور تخلیٰ جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہے۔

گوشہ تخلیٰ کے لمحات

یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیکے کی راتیں نہیں۔ یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لئے ہیں کہ گوشہ تخلیٰ میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو، اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔

میان عاشق و معشوق رمزیت
کراما کا تبین راہم خبر نیست

لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تخلیٰ میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آجلی ہے، مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جم غیرہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تخلیٰ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میر آگئے تو وہ چند لمحات اس سلی رات سے بد رجہ باہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری۔ اس لئے کہ تخلیٰ میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا، اور میلے میں جو وقت گزارا، وہ خلاف سنت گزارا، وہ رات اتنی یقین نہیں، جتنے وہ چند لمحات یقینی ہیں جو آپ نے اخواص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تخلیٰ میں گزار لئے۔

وہاں سخنے شمار نہیں ہوتے

میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عمل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، لہذا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کئے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتیاع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے سخنے شد کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے سخنے گزارے؟ وہاں سخنے شد نہیں کئے جاتے، وہاں تو اخلاص رکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ میں میر آگئے، تو وہ چند لمحات ہی انشاء اللہ پر پاڑ کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی سخنے گزار دیئے، مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔

اخلاص مطلوب ہے

میرے شیخ حضرات ذاکرہ عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ پڑے کیف کے علم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدہ میں "سبحان ربی الالٰ علیٰ" کنی مرتبہ کتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جدی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کرے "سبحان ربی الالٰ علیٰ" ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین تبیجھے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ "سبحان ربی الالٰ علیٰ" کی بدولت ہیڑ پاڑ کر دیں گے۔

لہذا یہ مت خیل کرو کہ اگر تھا مگر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آجائے گی۔ اس لئے کہ اگر نیند آجائے تو سوجا، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارو، وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آجائے تو سوجا، اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کرلو، اور پھر انہوں جاؤ، اس لئے کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہذا ایک آدمی سدی رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے، اور دوسرا آدمی صرف ایک سخنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پسلے شخص سے کمی درجہ بہتر ہے۔

ہر عبادت کو حد پر رکھو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اعمال کی گنتی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ رکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے؟ لہذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال توبت کر لئے، لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ نیند آجائے تو پڑ کر سوجا، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جو، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو، لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ملت ہو، اسی حد تک کرو، مثلاً فرض کی جماعت ملت ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ملت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت ملت ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب علی ایک فایر ہے، عیدین کی نماز پا جماعت ملت ہے، نماز استقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے، لیکن ان دونوں میں چونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ملت ہے، اور شعائرِ اسلام میں سے ہیں، لہذا ان کو جماعت سے ادا کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ان میں جماعت نہیں ہے، ان میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تخلیٰ میں طاقتات کرے، اللہ تعالیٰ نے تخلیٰ میں طاقتات کا جواز اعزاز بخشائے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔

عورتوں کی جماعت

ایک مسلمہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، چاہیے وہ فرض نماز کی جماعت ہو، یا سنت کی ہو، یا نفل کی ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمادیا کہ اگر جیسیں عبادت کرنی ہے تو تخلیٰ میں کرو، جماعت عورتوں کے لئے پسندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اخراج کا نام ہے، اب یہ مت کو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ دل توبت سدی چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہئے۔

شب برات اور حلہ

بہر حال! یہ شب برات۔ الحمد للہ۔ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو، اتنی عبادت کرنی چاہئے۔ بلقی جو اور فضولیات اس رات میں حلہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنی کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ شب برات کا طوے سے کوئی تعلق نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگایتا ہے، اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گنہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بحال ہیں۔

شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سدے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ کیا، اس لئے اس نے اپنا حصہ لگادیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلہ پکالیا کرو، دیسے تو سدے سل کے کسی دن بھی حلہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے، پکا کر کھائے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں۔ نہ تابعین کے عمل میں، اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلہ پکانے میں لگادیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حل ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں، جتنا اہتمام حلہ پکانے کا ہے۔

بدعات کی خاصیت

ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ میرے والد ماجد حضرت منتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعاں کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعاں کے اندر جتنا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جلتی ہے، چنانچہ آپ نے وہ کہا ہوا کہ جو لوگ صلوٰۃ النیع کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ اور جو لوگ بدعاں

کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثلاً حلوہ مہنگا کرنے اور کوئی سے میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف سے غفل ہوتے ہیں، لہازیں تباہ ہو رہی ہیں، جماستیں چھوٹ رہی ہیں۔ اس کی دلکشی گلری میں۔ لیکن یہ سب کچھ اور ہا ہے۔

اللہ اور انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب سے زیادہ آکیداں کی فریقی تھی کہ جب کسی کا احتیل اہو جائے تو اس کی میراث شریعت کے طبق جلدی تحریم کرو، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراث تحریم کرنے کی طرف تو دھیں نہیں ہیں، مگر تجھے ہو رہا ہے۔ وہیں ہو رہا ہے، چالیسوں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے۔ قذای بدعاۃ کی خاصیت یہ ہے کہ جب انہیں اس کے اندر جٹا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہونا پڑا جاتا ہے، اور سنت والے اعمال کرنے کی قسم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، آئین۔ بہر حال ان فضولیات اور بدعاۃ سے تو پچھا ہائے، بالی یہ رات فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کے بعد میں بعض لوگوں نے جو خیل ظاہر کیا ہے کہ اس رات میں کوئی فضیلت میلتی نہیں۔ یہ خیل سمجھ نہیں ہے۔

پندرہ شبِ شعبان کا روزہ

ایک سوکت شبِ برات کے بعد والے دن یعنی چندہ شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لیا جائے، وہ یہ کہ سوکتے ذخیرہ صدیت میں اس روزے کے بعد میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شبِ برات کے بعد والے دن روزہ رکھو۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور اس روایت کی وجہ سے نہیں اس چندہ شعبان کے روزے کو سنت یا شبِ قدر رہنا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پھرے شعبان کے میانے میں روزہ رکھنے کی فضیلت میلت ہے یعنی کیم شعبان سے ستائیں شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت میلت ہے لیکن ۲۹ اور ۳۰ شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے لیکن دو روز پہلے روزہ مت رکھو۔ تاکہ رمضان کے روزوں کے لئے ان شکلا کے ساتھ تکرار ہے، لیکن کیم شعبان سے ۲۷ / شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے، دوسرے یہ کہ یہ چندہ تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے اور حضور نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر روز کے ایام بیض میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے،

یعنی ۱۳/۱۵ تاریخ کو وہنا اگر کوئی شخص ان درود سے ۱۵/تدریغ کاروڑہ رکھے لیکن اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ ۱۵/تدریغ ایام بیض میں داخل ہے اگر اس نیت سے روزہ رکھے لے تو انشاء اللہ موجب اجر ہو گا، لیکن خاص پورہ تدریغ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے خروجیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر نقیباء کرام نے جمل مسح روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں محرم کی رس تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن پورہ شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن بھی روزہ رکھنا افضل ہے، بہر حال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھے لے تو انشاء اللہ اس پر ثواب ہو گا۔ باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر حالتے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے، دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا هم ہے۔ اپنی طرف سے حق لزاکر آگے پہنچئے کرنے کا ہم دین نہیں، وہنا اگر من حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بت اپنی ہاتھ ہے، انشاء اللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو ہاتھ دنے سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

بحث و مبادثہ سے پرہیز کریں

یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان بتوں کو سامنے رکھنے ہوئے عمل کیا جائے، باقی اس پڑے میں بست زیادہ بحث و مبادثہ میں نہیں پڑتا ہائے، آج کل یہ سلسلہ کمزرا ہو گیا کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس پر بحث و مبادثہ شروع ہو گیا، حالانکہ ہوتا یہ چاہئے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور ببروسہ ہے، تو اس: اسی پر عمل کر لو، کوئی دوسرا شخص دوسری بات کتا ہے تو ہر بحث میں مت ہزو، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ نام ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

المراء يطعنى فى العسل

یعنی اس قسم کے مخللات میں آہیں میں کوئی جھگڑا کرنا یا بحث و مبادلہ کرنا علم کے نور کو
ڈاک کر دنتا ہے، ہمارے ایک شاہرا اکبر اللہ آہادی مرحوم گزرے ہیں۔ اس پر بے میں
ان کا ایک شعر بدا اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ۔

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں
فانو مغل مجھ میں تھی ہی نہیں

یہ مذہبی بحث جس میں فضیل وقت خلائق ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اور جن لوگوں
کے پاس فاتح مغل ہوتی ہے۔ وہ اس قسم کی بحث و مبادلے میں پڑتے ہیں، اس لئے ہم تو
یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر قلم کو بھروسہ ہو، اس کے کئے پر مغل کرو، انشاء اللہ تعالیٰ تسلی
تجلت ہو جائے گی، اگر کوئی دوسرا عالم دوسرا ہات کر رہا ہے، تو پھر جسیں اس میں ابھتے
کی ضرورت نہیں، بس: سید حارست یہی ہے۔

رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاؤ

بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا ملاط ہے، اور مجھے
تباہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان البدک سے روپتے پہلے رسمی ہے۔
یہ در حقیقت رمضان البدک کا استقبال ہے، رمضان کی رسائل ہو رہی ہے۔
رمضان کی تیدی کرائی جارہی ہے کہ تید ہو جاؤ، اب وہ مقدس صینہ آنے والا ہے، جس
میں ہمدی رحمتوں کی بدشہی رہنے والی ہے، جس میں ہم منفترت کے دروازے کھونے
والے ہیں، اس کے لئے ذرا تید ہو جاؤ۔

دیکھئے: جب آدمی کسی بڑے دربد میں جاتا ہے، تو جانے سے پہنچے اپنے آپ کو
پاک صاف کرتا ہے، نہ آدم ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم
دربد رمضان کی صورت میں محلنے والا ہے تو اس دربد میں حاضری سے پہلے ایک رات
وے دی۔ لور یہ فرمایا کہ آؤ، ہم تمہیں اس رات کے اندر نہادھلا کر پاک صاف کر
دیں۔ گناہوں سے پاک صاف کریں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم

ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہو گا، اور تمہارے مکانہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیض یا بہرہ جاؤ گے، اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، اس کی قدر پہنچانی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين۔

وَلِلّٰهِ الْحُمْدُ وَلِلّٰهِ الْكَبُورُ